

**A
BILL**

To provide for the establishment of Nippon Institute of Advanced Sciences, (NIAS)

WHEREAS it is expedient to provide for the establishment of Nippon Institute of Advanced Sciences, (NIAS) Sheikhpura and to provide for matters connected therewith and ancillary thereto;

It is hereby enacted as follows:

**CHAPTER I
PRELIMINARY**

1. Short title, extent, and commencement: - (1) This Act may be called the Nippon Institute of Advanced Sciences, (NIAS) Act, 2024.

(2) It extends to the whole of Pakistan.

(3) It shall come into force at once.

2. Definitions.- In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context:-

- (i) **Authority** means any of the Authorities specified in this Act;
- (ii) **"Board"** Means the Board of Governors (BoG) Governing body of the Institute (NIAS);
- (iii) **"Chancellor/Chairman of board"** means the chancellor/chairperson" of the Institute (NIAS);
- (iv) **"Chairman"** means the" chairman of the Teaching Department;
- (v) **"Council"** means the Academic Council of the Institute;
- (vi) **"Company"** means the NIPPON HEALTH SERVICES (PVT) LIMITED company;
- (vii) **"Commission"** means the Higher Education Commission set up under the Higher Education Commission Ordinance, 2002 (LIII of 2002);
- (viii) **"Constituent College"** means an educational institution, by whatever name described, maintained and administered by the Institute;
- (ix) **"Dean"** means the head of a Faculty or the head of an academic body granted the status of a Faculty by this Act or by the Statutes or Regulations;
- (x) **"Department"** means a teaching department maintained and administered, or recognized by the Institute in the manner prescribed;
- (xi) **"Director"** means the head of an institute established as a constituent institution by the Institute by Statutes or Regulations in terms of the powers delegated by this Act;
- (xii) **"Faculty"** means an administrative and academic unit of the Institute consisting of one or more schools, as prescribed;
- (xiii) **"Government"** means the Federal Government;
- (xiv) **"Institute"** means the Nippon Institute of Advanced Sciences, (NIAS);

- (xv) **"Institute Teacher"** means a whole-time teacher appointed and paid by the Institute, or recognized by the Institute as such;
- (xvi) **"Patron"** means the Patron of the Institute;
- (xvii) **"Prescribed"** means prescribed by Statutes, Regulations or Rules made under this Act;
- (xviii) **"Principal"** means the head of a constituent unit/college;
- (xix) **"Representation Committees"** means the Representation Committees constituted under section 25;
- (xx) **"Review Panel"** means the Review Panel set up by the Chancellor in accordance with the provisions of this Act;
- (xxi) **"Search Committee"** means the Search Committee set up by the Board of Governors under this Act;
- (xxii) **"Schedule"** means a Schedule to this Act;
- (xxiii) **"Statutes" Regulations and Rules"** mean the Statutes, Regulations and Rules made under this Act and for the time being in force;
- (xxiv) **"Syndicate"** means the Syndicate of the Institute;
- (xxv) **"Teachers"** include Professors, Associate Professors, Assistant Professors, and lecturers engaged whole-time by the Institute or by a constituent and such other persons as may be declared to be teachers by Regulations; and
- (xxvi) **"Vice-Chancellor"** means the Vice-Chancellor of the Institute.

CHAPTER II THE INSTITUTE

3. Establishment and incorporation of the Institute. - (1) There shall be established an Institute to be called the Nippon Institute of Advanced Sciences, (NIAS), Sheikhupura.

(2) The Institute shall consist of the following, namely: -

- (a) the Patron, the Chancellor, the members of the Board of Governors, Syndicate, and the Vice-Chancellor;
- (b) the members of the authorities of the Institute established under section 17;
- (c) all Institute Teachers and persons recognized as students of the Institute in accordance with terms prescribed from time to time; and
- (d) all other full-time officers and members of the staff of the Institute.

(3) The Institute shall be a body corporate by such name as may be notified and shall have perpetual succession and a common seal, and may sue and be sued by the said name:

(4) The Institute shall be competent to acquire and hold property, both moveable and immovable, and to lease, sell or otherwise transfer any moveable

and immovable property which may have become vested in or been acquired by it.

(5) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the Institute shall have academic, financial and administrative autonomy, including the power to employ officers, teachers and other employees on such terms as may be prescribed, subject to the terms of this Act and the Higher Education Commission Act, 2002 (LIII of 2002). In particular, and without prejudice to the authority granted to the Commission by the law, the Government or an authority or auditor appointed by the Government shall have no power to question the policy underlying the allocation of resources approved by the Board of Governors in the annual budget of the Institute.

4. Powers and functions of the Institute. —The Institute shall have the following powers, namely. -

- (i) to provide for education and scholarship in such branches of knowledge as it may deem fit, and to make provision for research, service to society and for the application, advancement and dissemination of knowledge in such manner as it may determine;
- (ii) to prescribe courses of studies to be conducted by it and the constituent colleges/units;
- (iii) to hold examinations and to award and confer degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions to and on persons who have been admitted to and have passed its examinations under prescribed conditions;
- (iv) to prescribe the terms and conditions of employment of the officers, teachers and other employees of the Institute and to lay down terms and conditions that may be different from those applicable to government servants in general;
- (v) to engage, where necessary, persons on contracts of specified duration and to specify the terms of each engagement;
- (vi) to confer honorary degrees or other distinctions on approved persons in the manner prescribed;
- (vii) to provide for such instruction for persons not being students of the Institute as it may prescribe, and to grant certificates and diplomas to such persons;
- (viii) to institute programmes for the exchange of students and teachers between the Institute and other institutes, universities, educational institutions and research organizations, inside as well as outside Pakistan;
- (ix) to provide career counselling and job search services to students and alumni;
- (x) to maintain linkages with alumni;
- (xi) to develop and implement fund-raising plans;

- (xii) to provide and support the academic development of the faculty of the Institute;
- (xiii) to confer degrees on persons who have carried on independent research under prescribed conditions;
- (xiv) to accept the examinations passed and the period of study spent by students of the Institute at other universities and places of learning equivalent to such examinations and periods of study in the Institute, as it may prescribe, and to withdraw such acceptance;
- (xv) to co-operate with other Universities, public authorities or private organizations, inside as well as outside Pakistan, in such manner and for such purposes as it may prescribe;
- (xvi) to institute Professorships, Associate Professorships, Assistant Professorships and Lectureships and any other posts and to appoint persons thereto;
- (xvii) to create posts for research, extension, administration and other related purposes and to appoint persons thereto;
- (xviii) to recognize selected members of the teaching staff of colleges or educational institutions admitted to the privileges of the Institute or such other persons as it may deem fit, as Institute Teachers,
- (xix) to institute and award financial assistance to students in need, fellowships, scholarships, bursaries, medals and prizes under prescribed conditions;
- (xx) to establish teaching constituent colleges, departments, faculties, institutes, museums and other centres of learning for the development of teaching and research, professional and technical training and special studies and to make such arrangements for their maintenance, management and administration as it may prescribe;
- (xxi) to provide for the residence of the students of the Institute and the constituent units, to institute and maintain halls of residence and to approve or license hostels and lodging;
- (xxii) to maintain order, discipline and security on the campuses of the Institute and the constituent units;
- (xxiii) to promote the extra-curricular and recreational activities of such students, and to make arrangements for promoting their health and general welfare;
- (xxiv) to demand and receive such fees and other charges as it may determine;
- (xxv) to make provision for research, advisory or consultancy services and with these objects to enter into arrangements with other institutions, public or private bodies, commercial and industrial enterprises under prescribed conditions;
- (xxvi) to enter into, carry out, vary or cancel contracts;
- (xxvii) to receive and manage property transferred and grants, contributions made to the Institute and to invest any fund representing such property, grants, bequests, trusts, gifts, donations, endowments or contributions in such manner as it may deem fit;

(xxviii) to provide for the printing and publication of research and other works; and

(xxix) to do all such other acts as may be requisite or expedient for furtherance of objectives of the Institute as a center of education, learning, research, professional and technical training, special studies, and for safeguarding tangible and intangible cultural heritage.

5. Institute open to all classes, creeds, etc. — (1) The Institute shall be open to all persons of any gender and of whatever religion, race, creed, class, colour or domicile and no person shall be denied privileges of the Institute on these grounds.

(2) An increase in any fee or charge that is in excess of ten percent per annum on an annualized basis from the last such increase may not be made except in special circumstances, and only with the approval of the Chancellor.

(3) The Institute shall initiate financial aid programs for students in need, to the extent considered feasible by the Board of Governors given the resources available, so as to enable admission and access to the Institute and the various opportunities provided by it to be based on merit rather than ability to pay.

6. Teaching at the Institute. — (1) All recognized teaching, professional and technical training in various courses shall be conducted by the Institute or the schools in the prescribed manner and may include lectures, tutorials, discussions, seminars, demonstrations, distance learning and other methods of instruction as well as practical work in the laboratories, hospitals, workshops and other governmental or private organizations subject to policies prescribed by the Commission.

(2) The Institute may set up any number of campuses, at such places in Pakistan or abroad as the Board of Governors may determine and with prior approval of Higher Education Commission.

(2) The authority responsible for organizing recognized teaching shall be such as may be prescribed.

CHAPTER III OFFICERS OF THE INSTITUTE

7. Principal Officers. — The following shall be the principal officers of the Institute, namely:-

- (a) the Patron;
- (b) the Chancellor;
- (c) the Vice-chancellor;
- (d) the Pro Vice Chancellor;
- (c) the Deans;
- (f) the Principals of the constituent colleges/units;
- (g) the Chairpersons of the teaching departments;
- (h) the Registrar;

- (i) the Treasurer,
- (j) the Controller of Examinations; and
- (k) such other persons as may be prescribed by the Statutes or Regulations to be the principal officers of the Institute.

8. Patron. - (1) The President of Islamic Republic of Pakistan shall be the Patron of the Institute.

(2) The Patron shall, when present, preside at the convocation of the Institute. In the absence of the Patron, the Chancellor shall preside over the convocation of the Institute.

(3) Every proposal to confer an honorary degree shall be subject to confirmation by the Patron.

9. Visitation. - (1) The Patron may, in accordance with the terms and procedures as may be prescribed, cause an inspection or inquiry to be made on his own motion or at the request of the Commission In respect of any matter connected with the affairs of the Institute and shall, from time to time, direct any person or persons to inquire into or carry out inspection of—

- (a) the Institute, its building, laboratories, libraries, and other facilities,
- (b) any Institution, department or hostel maintained by the Institute;
- (c) the adequacy of financial and human resources;
- (d) the teaching, research, curriculum, examination, and other matters of the Institute, and
- (e) such other matters as the Patron may specify,

(2) The Patron shall communicate to the Board of Governors his views with regard to the result of visitation and shall, after ascertaining the views of the Board of Governors, advise the Chancellor on the action to be taken by it,

(3) The Chancellor shall, within such time as may be specified by the Patron, communicate to him such action, if any, as has been taken or may be proposed to be taken upon the results of visitation.

(4) Where the Board of Governors does not, within the time specified, take action to the satisfaction of the Patron, the Patron may issue such directions as he/she deems fit and Board of Governors shall comply with all such directions

10. Chancellor.—(1) The Chairperson of the Board of Directors of NIPPON HEALTH SERVICES COMPANY (Pvt) Limited, shall be Chancellor of the Institute.

(2) The members of the Board of Governors as well as the Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor from amongst the persons recommended by the Representation Committee set up for this purpose or the Search

Committee, respectively established in accordance with this Act and the Statutes, as the case may be, along with those elected.

(3) If the Chancellor is satisfied that serious irregularity or mismanagement with respect to the affairs of the Institute has occurred, he may:-

- (a) as regards proceedings of the Board of Governors, direct that specified proceedings be reconsidered, and appropriate action taken within one month of the direction having been issued:

Provided that If the Chancellor is satisfied that either no reconsideration has been carried out or that the reconsideration has failed to address the concern expressed, he may, after calling upon the Board of Governors to show cause in writing, appoint a five-member Review Panel to examine and report to the Chancellor on the functioning of the Board of Governors. The Review Panel shall be drawn from persons of eminence in academics and in the fields of law, accountancy and administration and the report of the Review Panel shall be submitted within such time as may be specified by the Chancellor; and

- (b) as regards proceedings of any Authority or with respect to matters within the competence of any Authority other than the Board of Governors, direct the Board of Governors to exercise powers under section 24.

11. Removal from the Board of Governors: — (1) The Chancellor may, upon the recommendation of the Review Panel, remove any person from the membership of the Board of Governors on the ground that such person:

- (a) has become of unsound mind; or
- (b) has become incapacitated to function as member of the Board of Governors; or
- (c) has been convicted by a court of law for an offence involving moral turpitude; or
- (d) has absented himself from two consecutive meetings Without just cause; or
- (e) has been guilty of misconduct, including use of position for personal advantage of any kind, or gross inefficiency in the performance of functions.

(2) The Chancellor shall remove any person from the membership of the Board of Governors on a resolution calling for the removal of such person supported by at least three-fourths of the membership of the Board of Governors:

Provided that before passing such resolution the Board of Governors shall provide the member concerned a fair hearing:

Provided further that the provisions of this section shall not be applicable to the Vice-Chancellor in his capacity as a member of the Board of Governors.

12. Vice-Chancellor. — (1) There shall be a Vice-Chancellor of the Institute who shall be an eminent academician or a distinguished administrator and shall be appointed on such terms and conditions as may be prescribed.

(2) The Vice-Chancellor shall be the chief executive officer of the Institute responsible for all administrative and academic functions of the Institute and for ensuring that the provisions of this Act, Statutes, Regulations and Rules are faithfully observed to promote the general efficiency and good order of the Institute. The Vice-Chancellor shall have all powers prescribed for this purpose, including administrative control over the officers, teachers, and other employees of the Institute.

(3) The Vice-Chancellor shall, if present, be entitled to attend any meeting of any Authority or body of the Institute.

(4) The Vice-Chancellor, in an emergency requiring immediate action ordinarily not in the competence of the Vice-Chancellor, may take such action and forward, within seventy-two hours, a report of the action taken to the members of the Emergency Committee of the Board of Governors, to be set up by Statute. The Emergency Committee may direct such further action as is considered appropriate.

(5) The Vice-Chancellor shall also have the following powers, namely:--

(a) to direct teachers, officers and other employees of the Institute to take up such assignments in connection with examination, administration and such other activities in the Institute as he may consider necessary for the purposes of the Institute;

(b) to sanction by re-appropriation an amount not exceeding an amount specified by the Board of Governors for an unforeseen item not provided for in the budget and report it to the Board of Governors at the next meeting;

(c) to make appointments of such categories of employees of the Institute and in such manner as may be prescribed by the Statutes;

(d) to suspend, punish and remove, in accordance with prescribed procedure, from service officers, teachers and other employees of the Institute except those appointed by or with the approval of the Board of Governors;

(e) to delegate, subject to such conditions as may be prescribed, any of his powers under this Act to an officer or officers of the Institute; and

(f) to exercise and perform such other powers and functions as may be prescribed.

(6) The Vice-Chancellor shall preside at the convocation of the Institute in the absence of the Chancellor.

(7) The Vice-Chancellor shall present an annual report before the Board of Governors within three months of the close of the academic year. The annual report shall present such information as regards the academic year under review as may be prescribed, including disclosure of all relevant facts pertaining to-

- (a) academics;
- (b) research;
- (c) administration; and
- (d) finances.

(8) The Vice-Chancellor's annual report shall be made available, prior to its presentation before the Board of Governors, to all officers and Institute Teachers and shall be published in such numbers as are required to ensure its wide circulation.

13. Appointment and removal of the Vice-Chancellor. — (1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor on the basis of recommendations made by the Board of Governors.

(2) A Search Committee for the recommendation of persons suitable for appointment as Vice Chancellor shall be constituted by the Board of Governors on the date and in the manner prescribed by the Statutes and shall consist of two eminent members of society nominated by the Chancellor, of whom one shall be appointed the Convener, two members of the Board of Governors, two distinguished Institute Teachers who are not members of the Board of Governors and one academician of eminence not employed by the Institute. The two distinguished Institute Teachers shall be selected by the Board of Governors through a process, to be prescribed by Statute that provides for the recommendation of suitable names by the Institute Teachers in general. The Search Committee shall remain in existence till the time of appointment of the next Vice-Chancellor made by the Chancellor.

(3) The persons proposed by the Search Committee for appointment as Vice-Chancellor shall be considered by the Board of Governors and a panel of three, in order of priority, shall be recommended by the Board of Governors to the Chancellor:

Provided that the Chancellor may decline to appoint any of the three persons recommended and seek recommendation of a fresh panel. In the event of a fresh recommendation being sought by the Chancellor, the Search Committee shall make a proposal to the Board of Governors in the prescribed manner.

(4) The Vice-Chancellor shall be appointed for a renewable tenure of four years on terms and conditions prescribed by Statutes. The tenure of an incumbent Vice-Chancellor shall be renewed by the Chancellor on receipt of a resolution of the Board of Governors in support of such renewal:

Provided that the Chancellor may call upon the Board of Governors to reconsider such resolution once.

(5) The Board of Governors may, pursuant to a resolution in this behalf passed by three-fourths of its membership, recommend to the Chancellor the removal of the Vice-Chancellor on the ground of inefficiency, moral turpitude or physical or mental incapacity or gross misconduct, including misuse of position for personal advantage of any kind:

Provided that the Chancellor may make a reference to the Board of Governors stating the instances of inefficiency, moral turpitude or physical or mental incapacity or gross misconduct on the part of the Vice Chancellor that have come to his notice. After consideration of the reference the Board of Governors may, pursuant to a resolution in this behalf passed by two-thirds of its membership, recommend to the Chancellor the removal of the Vice-Chancellor:

Provided further that prior to a resolution for the removal of the Vice-Chancellor being voted upon the Vice-Chancellor shall be given an opportunity of being heard.

(6) A resolution recommending the removal of the Vice-Chancellor shall be submitted to the Chancellor forthwith. The Chancellor may accept the recommendation and order removal of the Vice Chancellor or return the recommendation to the Board of Governors.

(7) At any time when the office of the Vice-Chancellor is vacant, or the Vice-Chancellor is absent or is unable to perform the functions of his office due to illness or some other cause, the Board of Governors shall make such arrangements for the performance of the duties of the Vice-Chancellor as it may deem fit.

14. Registrar. — (1) There shall be a Registrar of the Institute to be appointed by the Board of Governors on the recommendation of the Vice-Chancellor, on such terms and conditions as may be prescribed.

(2) The experience as well as the professional and academic qualifications necessary for appointment to the post of the Registrar shall be as may be prescribed.

(3) The Registrar shall be a full-time officer of the Institute and shall,—

- (a) be the administrative head of the secretariat of the Institute and be responsible for the provision of secretariat support to the Authorities of the Institute;
 - (b) be the custodian of the common seal and the academic records of the Institute;
 - (c) maintain a register of registered graduates in the prescribed manner;
 - (d) supervise the process of election, appointment or nomination of members to the various authorities and other bodies in the prescribed manner; and
 - (e) perform such other duties as may be prescribed.
- (4) The term of office of the Registrar shall be a renewable period of three years:

Provided that the Board of Governors may, on the advice of the Vice Chancellor, terminate the appointment of the Registrar on grounds of inefficiency or misconduct in accordance with prescribed procedure.

15. Treasurer.—(1) There shall be a Treasurer of the Institute to be appointed by the Board of Governors on the recommendation of the Vice Chancellor, on such terms and conditions as may be prescribed,

(2) The experience and the professional and academic qualifications necessary for appointment to the post of the Treasurer shall be as may be prescribed.

(3) The Treasurer shall be the chief financial officer of the Institute and shall,—

- (a) manage the assets, liabilities, receipts, expenditures, funds and investments of the Institute;
 - (b) prepare the annual and revised budget estimates of the Institute and present them to the Syndicate or a committee thereof for approval and incorporation in the budget to be presented to the Board of Governors;
 - (c) ensure that the funds of the Institute are expended on the purposes for which they are provided;
 - (d) have the accounts of the Institute audited annually to be available for submission to the Board of Governors within six months of the close of the financial year, and
 - (e) perform such other duties as may be prescribed.
- (4) The term of office of the Treasurer shall be a renewable period of three years:

Provided that the Board of Governors may, on the advice of the Vice Chancellor, terminate the appointment of the Treasurer on grounds of inefficiency or misconduct in accordance with prescribed procedure.

16. Controller of Examinations.—(1) There shall be a Controller of Examinations, to be appointed by the Board of Governors on the recommendation of the Vice-Chancellor, on such terms and conditions as may be prescribed.

(2) The minimum qualifications necessary for appointment to the post of the Controller of Examinations shall be as may be prescribed.

(3) The Controller of Examinations shall be a full-time officer of the Institute and shall be responsible for all matters connected with the conduct of examinations and performs such other duties as may be prescribed.

(4) The Controller of Examinations shall be appointed for a renewable term of three years:

Provided that the Board of Governors may, on the advice of the Vice Chancellor, terminate the appointment of the Controller of Examinations on grounds of inefficiency or misconduct in accordance with prescribed procedure.

17. Director Planning & Development. — (1) There shall be a Director Planning & Development of the Institute to be appointed by the Board of Governors on the recommendation of the Syndicate for a period of three years (once renewable) on such terms & conditions as may be prescribed.

(2) The minimum experience as well as the professional and academic qualifications necessary for the appointment to the post of Director Planning & Development shall be prescribed.

(3) The Director Planning & Development shall be responsible for all matters connected with planning and development and perform such other duties as may be prescribed.

(4) The Director Planning & Development shall:

- i. Prepare short- and long-term plans and development programs to meet vision, goals and priorities set by the Institute management/Board of Governors;
- ii. Conduct comprehensive review, assessment, and analysis of development planning process (project identification, appraisal, selection, implementation, and monitoring) and mechanism;
- iii. Develop a strategy for improving development planning processes and mechanisms based on findings of the situation analysis;

- iv. Provide technical support in developing project proposals and PCs-I, for the Institute;
- v. Preparation of the PC-I, PC-II, PC-III, PC-IV, and PC-V;
- vi. Preparation of cash work and activity plan;
- vii. Preparation of quarterly expenditure statements;
- viii. Preparation of monthly and quarterly progress reports;
- ix. To coordinate with works, purchase, store units and accounts;
- x. To communicate/submit reports, plans and projects to different donors.

(5) The Board of Governors may on the recommendations/advice of Syndicate, terminate the services of Director Planning and Development on grounds of inefficiency or misconduct in accordance with the prescribed procedure.

18. Director Quality Enhancement Cell (QEC). — (1) There shall be a Director Quality Enhancement Cell (QEC) of the Institute to be appointed by the Board of Governors on the recommendation of Syndicate for a renewable period of three years on such terms & conditions as may be prescribed.

(2) The minimum experience as well as the professional and academic qualifications necessary for the appointment to the post of Director Quality Enhancement Cell (QEC) shall be as may be prescribed.

(3) The Director Quality Enhancement Cell (QEC) shall be responsible to:

- i. Review the quality standards and the quality of teaching and learning in each subject area;
- ii. Review the academic association with other institutions in terms of effective management of standards and quality of programs;
- iii. Defining clear and explicit standards as points of reference to the review to be carried out. It should also help the employees to know as to what they could expect from candidates;
- iv. Developing qualifications framework by setting out the attributes and abilities that can be expected from the holder of a qualification, i.e. undergraduate and graduate programs;
- v. Developing program specifications. These are standards set of information clarifying what knowledge, understanding, skills and other attributes a student will have developed on successfully completing a specific program;
- vi. Developing quality assurance processes and methods of evaluation to affirm that the quality of provision and the standard of awards are being maintained and to foster curriculum, subject and staff development together with research and other scholarly activities;
- vii. Ensure that the Institute's quality assurance procedures are designed to fit in with the arrangements in place nationally and internationally for maintaining and improving the quality of Higher Education;

- viii. Developing procedures and processes, monitoring & evaluation systems, and standards for the following:
 - a. Approval of new program
 - b. Annual Monitoring and evaluation including program monitoring, faculty monitoring and student perceptions
 - c. Departmental review
 - d. Student feedback
 - e. Employer feedback
 - f. Quality assurance of undergraduate, graduate & doctoral programs
 - g. Institutional assessment and performance evaluation
 - h. Program specifications
 - i. Qualification framework

ix. Director Quality Enhancement Cell (QEC) shall be the member of all statutory bodies/committees of the Institute.

(4) The Board of Governors may on the recommendations/advice of Syndicate, terminate the services of Director Quality Enhancement Cell (QEC) on grounds of inefficiency or misconduct in accordance with the prescribed procedure.

19. Director of Office of Research, Innovation & Commercialization (ORIC).

—(1) There shall be a Director (ORIC) of the Institute to be appointed by the Board of Governors on the recommendation of Syndicate for a renewable period of three years on such terms and conditions as may be prescribed.

(2) The minimum experience as well as the professional and academic qualifications necessary for the appointment to the post of Director (ORIC) shall be as may be prescribed.

(3) The Director (ORIC) shall:

- i. Manage and enhance the research activities of the Institute, develop research policies and priorities, work for fund raising for research, mobilize faculty, business community and industry for research commercialization and serve as an effective advocate for research with the university/Institute and to its broader community of stakeholders and supporters;
- ii. To supervise all aspects of the operation of the Office for Research including research administration (budgeting, auditing, accounting, human resources, management & maintenance of facilities and equipment, implementation of research contracts and human resources);
- iii. To develop programs and activities that will increase funding for research from all public and private sources, establish and maintain

- excellent relationships with donors and *private sources, oversee proposals development and submission
- iv. To promote the development of public-private partnerships in support of Institute research, link the Institute's research community with the needs and priorities of the corporate sector, develop opportunities for applied research and explore opportunities for technology transfer and commercialization of Institute research (including incubators and research parks).
 - v. Be responsible to monetize royalty streams from licenses,
 - vi. Collaborate with the principal liaison for technical marking and licensing on the commercialization of the Institute's IP in coordination with other relevant department and offices,
 - vii. Director (ORIC) will work in close liaison with the office of research and development, planning & development, and Institute's technology park.

(4) The Board of Governors may on the recommendations/advice of Syndicate. Terminate the services of Director (ORIC) on grounds of inefficiency or misconduct in accordance with the prescribed procedure.

CHAPTER IV AUTHORITIES OF THE INSTITUTE

20. Authorities. — (1) The following shall be the Authorities of the Institute, namely. —

- (a) Authorities established by this Act,—
 - i. the Board of Governors;
 - ii. the Syndicate; and
 - iii. the Academic Council;
- (b) Authorities to be established by the Statutes, —
 - (i) Board of Advanced Studies and Research;
 - (ii) Board of Studies;
 - (iii) Selection Board;
 - (iv) Finance and Planning Committee;
 - (v) Search Committee for the appointment of the Vice-Chancellor;
 - (vi) Representation Committees for appointment to the Board of Governors, Syndicate and the Academic Council;
 - (vii) Quality Assurance Committee;
 - (viii) Discipline Committee;

(2) The Board of Governors, the Syndicate and the Academic Council may set up such other committees or sub-committees, by whatever name described, as are considered desirable through Statutes or Regulations. Such committees or sub-committees shall be Authorities of the Institute for the purposes of this Act.

21. Board of Governors.—(1) The body responsible for the governance of the Institute shall be described as Board of Governors, and shall consist of the following, namely:—

- (a) the Chancellor who shall be the Chairperson of the Board of Governors;
- (b) the Vice-Chancellor;
- (c) the Pro Vice-Chancellor,
- (d) one member of the Government not below the rank of Additional Secretary from the concerned Ministry or any other department relevant to the special focus of the Institute;
- (e) four persons from society at large, preferably two or at least one female being persons of distinction in the fields of administration, management, education, academics, law, accountancy, medicine, fine arts, architecture, agriculture, science, technology, industry, and engineering such that the appointment of these persons reflects a balance across the various fields;
- (f) one person from amongst the alumni of the Institute;
- (g) two persons from the academic community of the country, other than an employee of the Institute, at the level of professor or principal of a college;
- (h) four Institute Teachers (One from each tier i.e. Professor, Associate Professor, Assistant Professor and Lecturer);
- (i) one person nominated by the Commission;
- (j) two persons nominated by NIPPON HEALTH SERVICES Company (PVT) LTD.

(2) The numbers of the members of the Board of Governors specified against clauses (f) to (i) of sub-section (1) may be increased by the Board of Governors through Statutes subject to condition that the total membership of the Board of Governors does not exceed twenty-one, with a maximum of five Institute Teachers, and the increase is balanced, to the extent possible, across the different categories specified in sub-section (1).

(3) All appointments to the Board of Governors shall be made by the Chancellor. Appointments of persons specified in clauses (f) to (g) of sub-section (1) shall be made from amongst a panel of three names for each vacancy recommended by the Representation Committee set up in terms of section 28 and in accordance with procedure as may be prescribed.

Provided that effort shall be made, without compromising on quality or qualification, to give fair representation to women on the Board of Governors.

Provided further that as regards the Institute Teachers specified in clause (h) of sub-section (1) the Board of Governors shall prescribe a procedure for appointment on the basis of elections that provide for voting by the various categories of Institute Teachers, Provided also that the Board of Governors may alternatively prescribe that appointment of Institute Teachers to the Board of Governors shall also be in the manner provided by this sub-section for the persons specified in clauses (f) to (g) of sub-section (1).

(4) Members of the Board of Governors, other than *ex officio* members, shall hold office for three years. One-third of the members, other than *ex officio* members, of the First Board of Governors, to be determined by lot, shall retire from office on the expiration of one year from the date of appointment by the Chancellor. One half of the remaining members, other than *ex officio* members, of the First Board of Governors, to be determined by lot, shall retire from office on the expiration of two years from the date of appointment and the remaining one-half, other than *ex officio* members, shall retire from office on the expiration of the third year

Provided that no person, other than an *ex officio* member, may serve on the Board of Governors for more than two consecutive terms:

Provided further that the Institute Teachers appointed to the Board of Governors may not serve for two consecutive terms.

(5) The Board of Governors shall meet at least twice in a calendar year.

(6) Service on the Board of Governors shall be on honorary basis. However, actual expenses may be reimbursed as prescribed.

(7) The Registrar shall be the Secretary of the Board of Governors.

(8) In the absence of the Chancellor, meetings of the Board of Governors shall be presided over by such member, not being an employee of the Institute or the Government, as the Chancellor may, from time to time, nominate. The member so nominated shall be the convener of the Board of Governors.

(9) Unless otherwise prescribed by this Act, all decisions of the Board of Governors shall be taken on the basis of the opinion of a majority of the

members present. In the event of the members being evenly divided on any matter the person presiding over the meeting shall have a casting vote.

(10) The quorum for a meeting of the Board of Governors shall be two thirds of its membership, a fraction being counted as one.

22. Powers and functions of the Board of Governors.— (1) The Board of Governors shall have the power of general supervision over the Institute and shall hold the Vice-Chancellor and the Authorities accountable for all the functions of the Institute. The Board of Governors shall have all powers of the Institute not expressly vested in an Authority or officer by this Act and all other powers not expressly mentioned by this Act that are necessary for the performance of its functions.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers, the Board of Governors shall have the following powers:—

- (a) to approve the proposed annual plan of work, the annual and revised budgets, the annual report and the annual statement of account;
- (b) to hold, control and lay down policy for the administration of the property, funds and investments of the Institute, including the approval of the sale and purchase or acquisition of immovable property;
- (c) to oversee the quality and relevance of the Institute's academic programs and to review the academic affairs
- (d) to approve the appointment of the Deans, Professors, Associate professors and such other senior faculty and senior administrators as may be prescribed;
- (e) to institute schemes, directions and guidelines for the terms and conditions of appointment of all officers, teachers and other employees of the Institute;
- (f) to approve strategic plans;
- (g) to approve financial resource development plans of the Institute;
- (h) to consider the drafts of Statutes and Regulations proposed by the Syndicate and the Academic Council and deal with them in the manner as provided for in sections 31 and 32, as the case may be:

Provided that the Board of Governors may frame a Statute or Regulation on its own initiative and approve it after calling for the advice of the Syndicate or the Academic Council as the case may be;

- (i) to annul by order in writing the proceedings of any Authority or officer if the Board of Governors is satisfied that such proceedings are not in accordance with the provisions of this Act, Statutes or

Regulations after calling upon such Authority or officer to show cause why such proceedings should not be annulled;

- (j) to recommend to the Chancellor removal of any member of the Board of Governors in accordance with the provisions of this Act;
- (k) to make appointment of members of the Syndicate, other than *ex officio* members, in accordance with the provisions of this Act;
- (l) to make appointment of members of the Academic Council, other than *ex officio* members, in accordance with the provisions of this Act;
- (m) to appoint Emeritus Professors on such terms and conditions as may be prescribed;
- (n) to remove any person from the membership of any Authority if such person:
 - (i) has become of unsound mind; or
 - (ii) has become incapacitated to function as member of such Authority; or
 - (iii) has been convicted by a court of law for an offence involving moral turpitude, *and*
- (o) to determine the form, provide for the custody and regulate the use of the common seal of the Institute,

(3) The Board of Governors may, subject to the provisions of this Act delegate all or any of the powers and functions of any Authority, officer or employee of the Institute at its main campus, to any Authority, committee, officer or employee at its additional campus for the purpose of exercising such powers and performing such functions in relation to such additional campus, and for this purpose the Board of Governors may create new posts or positions at the additional campus.

23. Visitation.—The Board of Governors may, in accordance with the terms and procedures as may be prescribed, because an inspection to be made in respect of any matter connected with the Institute.

24. Syndicate.— (1) There shall be a Syndicate of the Institute consisting of the following:—

- (a) the Vice-Chancellor who shall be its Chairperson;
- (b) the Pro Vice-Chancellor;
- (c) the Deans of the Faculties of the Institute;
- (d) three professors from different departments, who are not members of the Board of Governors, to be elected by the Institute Teachers in accordance with procedure to be prescribed by the Board of Governors;

- (e) Principals of the constituent colleges/units;
- (f) the Registrar;
- (g) the Director (QEC);
- (h) the Director (ORIC);
- (i) the Director (P&D);
- (j) the Treasurer; *and*
- (k) the Controller of Examinations.

(2) Members of the Syndicate, other than *ex officio* members, shall hold office for three years.

(3) As regards the three Professors described in clause (d) of sub-section (1) the Board of Governors may, as an alternative to elections, prescribe a procedure for proposal of a panel of names by the Representation Committee set up in terms of section 28. Appointment of persons proposed by the Representation Committee may be made by the Board of Governors on the recommendation of the Vice Chancellor.

(4) The quorum for a meeting of the Syndicate shall be one-half of the total number of members, a fraction being counted as one

(5) The Syndicate shall meet at least once in each quarter of the year.

25. Powers and duties of the Syndicate.—(1) The Syndicate shall be the executive body of the Institute and shall, subject to the provisions of this Act and the Statutes, exercise general supervision over the affairs and management of the Institute

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers, and subject to the provisions of this Act, the Statutes and directions of the Board of Governors the Syndicate shall have the following powers:—

- (a) to consider the annual report, the annual and revised budget estimates and to submit these to the Board of Governors;
- (b) to transfer and accept transfer of movable property on behalf of the Institute;
- (c) to enter into, vary, carry out and cancel contracts on behalf of the Institute;
- (d) to cause proper books of account to be kept for all sums of money received and expended by the Institute and for the assets and liabilities of the Institute;
- (e) to invest any money belonging to the Institute including any unapplied income in any of the securities described in section 20 of the

Trusts Act, 1882 (Act II of 1882), or in the purchase of immovable property or in such other manner, as it may prescribe, with the like power of varying such investments;

(f) to receive and manage any property transferred, and grants, bequests, trust, gifts, donations, endowments, and other contributions made to the Institute;

(g) to administer any funds placed at the disposal of the Institute for specified purposes;

(h) to provide the buildings, libraries, premises, furniture, apparatus, equipment and other means required for carrying out the work of the Institute;

(i) to establish and maintain halls of residence and hostels or approve or license hostels or lodgings for the residence of students;

(j) to recommend to the Board of Governors admission of educational institutions to the privileges of the Institute and withdraw such privileges;

(k) to arrange for the inspection of schools and the departments;

(l) to institute Professorships, Associate Professorships, Assistant Professorships, Lectureships, and other teaching posts or to suspend or to abolish such posts;

(m) to create, suspend or abolish such administrative or other posts as may be necessary;

(n) to prescribe the duties of officers, teachers and other employees of the Institute;

(o) to report to the Board of Governors on matters with respect to which it has been asked to report;

(p) to appoint members to various Authorities in accordance with the provisions of this Act;

(q) to propose drafts of Statutes for submission to the Board of Governors;

(r) to regulate the conduct and discipline of the students of the Institute;

(s) to take actions necessary for the good administration of the Institute in general and to this end exercise such powers as are necessary;

(t) to delegate any of its powers to any Authority or officer or a committee; *and*

(u) to perform such other functions as have been assigned to it by the provisions of this Act or may be assigned to it by the Statutes.

26. Academic Council. —(1) There shall be an Academic Council of the Institute consisting of the following —

- (a) the Vice Chancellor who shall be its Chairperson;
- (b) the Pro Vice-Chancellor (Admin & Finance);
- (c) the Pro Vice Chancellor (Academic & Research);
- (d) the Deans of Faculties and such Heads of departments as may be prescribed;
- (e) five members representing the departments, institutes, and the constituent schools to be elected in the manner prescribed by the Board of Governors;
- (f) five Professors including Emeritus Professors:
- (g) the Registrar;
- (h) the Director (QEC);
- (i) the Director (ORIC);
- (j) the Controller of Examinations; and
- (k) the Librarian.

(2) The Board of Governors shall appoint the members of the Academic Council, other than the *ex officio* and the elected members, on the recommendation of the Vice Chancellor:

Provided that as regards the five professors and the members representing the departments, institutes and the constituent schools the Board of Governors may, as an alternative to elections, prescribe a procedure for proposal of a panel of names by the Representation Committee set up in terms of section 28. Appointment of persons proposed by the Representation Committee may be made by the board of Governors on the recommendation of the Vice Chancellor.

- (3) Members of the Academic Council shall hold office for three years.
- (4) The Academic Council shall meet at least once in each quarter.
- (5) The quorum for meetings of the Academic Council shall be one half of the total number of members, a fraction being counted as one.

27. Powers and Functions of the Academic Council.- (1) The Academic Council shall be the principal academic body of the institute and shall, subject to the provisions of this Act and the Statutes, have the power to lay down proper standards of instruction, research and examinations and to regulate and promote the academic life of the institute and the schools.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers, and subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Academic Council shall have the power to-

- (a) Approve the policies and procedures pertaining to the quality of academic programs;
- (b) Approve academic programs;
- (c) Approve the policies and procedures pertaining to student related functions including admissions, expulsions, punishments, examinations and certification;
- (d) Approve the policies and procedures assuring quality of teaching and research;
- (e) Propose to the Syndicate schemes for the constitution and organization of Faculties, teaching departments and Boards of Studies;
- (f) Appoint paper setters and examiners for all examinations of the Institute after receiving panels of names from the relevant authorities;
- (g) Institute programs for the continued professional development of Institute Teachers at all levels;
- (g) Institute programs for the continued professional development of Institute Teachers at all levels;
- (h) Recognize the examinations of other Universities or examining bodies as equivalent to the corresponding examinations of the Institute;
- (i) Regulate the award of studentships, scholarships, exhibitions, medals and prizes,
- (j) Frame Regulations for submission to the Board of Governors;
- (k) Prepare an annual report on the academic performance of the Institute; and
- (l) perform such functions as may be prescribed by Regulations.

28. Representation Committees. — (1) There shall be a Representation Committee constituted by the Board of Governors through Statute for recommendation of persons for appointment to the Board of Governors in accordance with the provisions of section 21.

(2) There shall also be a Representation Committee constituted by the Board of Governors through Statute for the recommendation of persons for appointment to the Syndicate and the Academic Council in accordance with the provisions of sections 25 and 27.

(3) Members of the Representation Committee for appointments to the Board of Governors shall consist of the following:—

- (a) three members of the Board of Governors who are not Institute Teachers;
- (b) two persons nominated by the Institute Teachers from amongst themselves in the manner prescribed;
- (c) one person from the academic community, not employed by the Institute, at the level of professor or school principal to be nominated by the Institute Teachers in the manner prescribed; and
- (d) one eminent citizen with experience in administration, philanthropy, development work, law or accountancy to be nominated by the Board of Governors

(4) The Representation Committee for appointments to the Syndicate and the Academic Council shall consist of the following:

- a) two members of the Board of Governors who are not Institute Teachers, and
- b) three persons nominated by the Institute Teachers from amongst themselves in the manner prescribed;

(5) The tenure of the Representation Committees shall be three years:

Provided that no member shall serve for more than two consecutive terms.

(6) The procedures of the Representation Committees shall be as may be prescribed.

(7) There may also be such other Representation Committees set up by any of the other Authorities of the Institute as are considered appropriate for recommending persons for appointment to the various Authorities and other bodies of the Institute.

29. Appointment of committees by certain Authorities. — (1) The Board of Governors, the Syndicate, the Academic Council and other Authorities may, from time to time, appoint such standing, special or advisory committees, as they may deem fit, and may place on such committee persons who are not members of the Authorities appointing the Committees.

(2) The constitution, functions, and powers of the Authorities for which no specific provision has been made in this Act shall be such as may be prescribed by Statutes or Regulations.

CHAPTER V

STATUTES, REGULATIONS AND RULES

30. Statutes. — (1) Subject to the provisions of this Act, Statutes, may be made to regulate or prescribe all or any of the following matters:—

- (a) the contents of and the manner in which the annual report to be presented by the Vice Chancellor before the Board of Governors shall be prepared;
- (b) the Institute fees and other charges,
- (c) the constitution of any pension, insurance, gratuity, provident fund and benevolent fund for Institute employees;
- (d) the scales of pay and other terms and conditions of service of officers, teachers and other Institute employees;
- (e) the maintenance of the register of registered graduates,
- (f) admission of educational institutions to the privileges of the Institute and the withdrawal of such privileges;
- (g) the establishment of Faculties, departments, institutes, schools and other academic divisions;
- (h) the powers and duties of officers and teachers
- (i) conditions under which the Institute may enter into arrangements with other institutions or with public bodies for purposes of research and advisory services;
- (j) conditions for appointment of Emeritus Professors and award of honorary degrees;
- (k) efficiency and discipline of Institute employees;
- (l) the constitution and procedure to be followed by Representation Committees in carrying out functions in terms of this Act;
- (m) the constitution and procedure to be followed by the Search Committee for appointment of the Vice Chancellor
- (n) constitution, functions and powers of the Authorities of the Institute; *and*
- (o) all other matters which by this Act are to be or may be prescribed or regulated by Statutes.

(2) The draft of Statutes shall be proposed by the Syndicate to the Board of Governors which may approve or pass with such modifications as the Board of Governors may think fit or may refer back to the Syndicate, as the case may be, for reconsideration of the proposed draft:

Provided that Statutes concerning any of the matters mentioned in clauses (a) and (l) of sub-section (1) shall be initiated and approved by the Board of Governors, after seeking the views of the Syndicate:

Provided further that the Board of Governors may initiate a Statute with respect to any matter in its power or with respect to which a Statute may be framed in terms of this Act and approve such Statute after seeking the views of the Syndicate.

31. Regulations.— (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Academic Council may make Regulations, the courses of study for degrees, diplomas and certificates of the Institute;

- (a) the manner in which the teaching referred to in sub-section (1) of section 6 shall be organized and conducted;
- (b) the admission and expulsion of students to and from the Institute;
- (c) the conditions under which students shall be admitted to the courses and the examinations of the Institute and shall become eligible for the award of degrees, diplomas and certificates;
- (d) the conduct of examinations;
- (e) conditions under which a person may carry on independent research to entitle him to a degree;
- (f) the institution of fellowships, scholarships, exhibitions, medals and prizes;
- (g) the use of the Library;
- (h) the formation of Faculties, departments and Board of Studies; *and*
- (l) all other matters which by this Act or the Statutes are to be or may be prescribed by Regulations,

Provided that Regulations regarding or incidental to matters contained in sub-clauses (f) and (h) shall not be submitted to the Board of Governors without the prior approval of the Syndicate.

(2) Regulations shall be proposed by the Academic Council and shall be submitted to the Board of Governors which may approve them or withhold approval or refer them back to the Academic Council for reconsideration. A Regulation proposed by the Academic Council shall not be effective unless it receives the approval of the Board of Governors.

32. Amendment and repeal of Statutes and Regulations. — The procedure for adding to, amending or repealing the Statutes and the Regulations shall be the same as that prescribed respectively for framing or making Statutes and Regulations.

33. Rules. — (1) The Authorities and the other bodies of the Institute may make Rules, consistent with this Act, Statutes or the Regulations, to regulate any matter relating to the affairs of the Institute which has not been provided for by this Act or that is not required to be regulated by Statutes or Regulations, including rules to regulate the conduct of business and the time and place of meetings and related matters.

(2) Rules shall become effective upon approval by the Syndicate.

CHAPTER VI
INSTITUTE FUND

34. Institute Fund.— The Institute shall have a Fund to which shall be credited its income from fees, charges, donations, trusts, bequests, endowments, contributions, grants and all other sources.

35. Audits and accounts. — (1) The accounts of the Institute shall be maintained in such form and in such manner as may be prescribed

(2) The teaching departments, constituent colleges and institutes and all other bodies designated as such by the Syndicate in terms of Statutes shall be independent cost centers of the Institute with authority vested in the head of each cost center to sanction expenditure out of the budget allocated to it. Provided that re-appropriation from one head of expenditure to another may be made by the head of a cost centre in accordance with and to the extent prescribed by the Statutes.

(3) All funds generated by a teaching department, constituent college or other unit of the Institute through consultancy, research or other provision of service shall be made available without prejudice to the budgetary allocation otherwise made, after deduction of overheads in the manner and to the extent prescribed by Statute, to the teaching department, constituent school or other unit for its development. A part of the funds so generated may be shared with the Institute Teachers or researchers in charge of the consultancy, research or service concerned in the manner and to the extent prescribed by Statute.

(4) No expenditure shall be made from the funds of the Institute, unless a bill for its payments has been issued by the head of the cost centre concerned in accordance with the relevant statutes and the Treasurer has verified that the payment is provided for in the approved budget of the cost centre, subject to the authority to re-appropriate available to the head of the cost centre.

(5) Provision shall be made for an internal audit of the finances of the Institute.

(6) Without prejudice to the requirement of audit by an auditor appointed, the annual audited statement of accounts of the Institute shall be prepared in conformity with the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) by a reputed firm of chartered accountants and signed by the Treasurer.

(7) The observations of the Auditor if any, together with such annotations as the Treasurer may make, shall be considered by the Syndicate and shall be placed before the Board of Governors within six months of closing of the financial year.

CHAPTER VII

GENERAL PROVISIONS

36. Opportunity to show cause. — Except as otherwise provided by law no officer, teacher or other employee of the Institute holding a permanent post shall be reduced in rank, or removed or compulsorily retired from service for cause arising out of any act or omission on the part of the person concerned unless he has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken.

37. Appeal to the Syndicate and the Board of Governors.— Where an order is passed punishing any officer (other than the Vice-Chancellor), teacher or other employee of the Institute or altering or interpreting to his disadvantage the prescribed terms or conditions of his service, he shall, where the order is passed by any officer or teacher of the Institute other than the Vice-Chancellor, have the right to appeal to the Syndicate against the order, and where the order is passed by the Vice-Chancellor, have the right to appeal to the Board of Governors.

38. Service of the Institute. — (1) All persons employed by the Institute in accordance with the terms and conditions of service prescribed by statutes shall be persons in the service of the Institute.

(2) An officer, teacher, or other employee of the Institute shall retire from service on the attainment of such age or tenure of service as may be prescribed.

39. Benefits and insurance. — (1) The Institute shall constitute for the benefit of its officers, teachers and other employees' schemes, as may be prescribed, for the provision of post-employment benefits as well as health and life insurance while in service.

40. Commencement of term of office of members of Authority. — (1) When a member of a newly constituted Authority is elected, appointed, or nominated, his term of office as fixed under this Act, shall commence from such date as may be prescribed.

(2) Where a member who has accepted any other assignment or for any other similar reason remains absent from the Institute for a period of not less than six months he shall be deemed to have resigned and vacated his seat.

41. Filling of casual vacancies in Authorities. — Any casual vacancy among the members of any Authority shall be filled, as soon as conveniently may be, in the same manner and by the same person or Authority that had appointed the member whose place has become vacant and the person appointed to the vacancy shall be a member of such Authority for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been a member.

42. Flaws in the constitution of Authorities. —Where there is a flaw in the constitution of an Authority, as constituted by this Act, the Statutes or the Regulations on account of the abolition of a specified office or because an organization, institution or other body outside the Institute has been dissolved or has ceased to function, or because of some other similar reason, such flaw shall be removed in such manner as the Board of Governors may direct.

43. Proceedings of Authorities not invalidated by vacancies. — No act, resolution or decision of any Authority shall be invalid by reason of any vacancy on the Authority doing, passing, or making it or by reason of any want of qualification or invalidity in the election, appointment or nomination of any de facto member of the Authority, whether present or absent.

44. First Statutes and Regulations. - Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, the President of Pakistan shall promulgate the First Statutes and Regulations which shall be deemed to be Statutes and Regulations framed under section 30 and 31 and shall continue to remain in force until amended or replaced or till such time as new Statutes and Regulations are framed in accordance with the provisions of this Act.

45. Removal of difficulty. - (1) If any question arises as to the interpretation of any of the provisions of this Act, it shall be placed before the Chancellor and Commission whose decision thereon shall be final.

(2) If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of this Act, the Chancellor may make such order after obtaining the views of the Board of Governors, not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to him to be necessary for removing the difficulty

(3) Where this Act makes any provision for anything to be done but no provision or no sufficient provision has been made as respects the authority by whom, or the time at which, or the manner in which, it shall be done, then it shall be done by such authority, at such time, or in such manner as the Chancellor may direct after obtaining the views of the Board of Governors.

46. Indemnity. —No suit or legal proceedings shall lie against the Government, the Institute or any Authority, officer or employee of the Government or the Institute or any person in respect of anything which is done in good faith under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Academic Excellence: it will provide high-quality education and promote academic excellence across a range of disciplines.

Research and Innovation: it will Prioritize advance knowledge and contributing to research and innovation in various fields. **Student Success and Engagement:** We strive to create an environment that supports the holistic

development of students. Institute focuses on providing comprehensive academic and career support services, fostering a vibrant campus community, and promoting student engagement through extracurricular activities, internships, and leadership opportunities.

Diversity and Inclusion: it will create an inclusive and diverse campus community that values and celebrates individuals from different backgrounds. We focus on increasing diversity among students and faculty, promoting equity and accessibility, and creating an inclusive learning environment where all members feel welcomed and valued.

Global Engagement: In an increasingly interconnected world, we emphasize on global engagement. This objective involves promoting international collaborations, offering study abroad programs, attracting international students and scholars, and preparing students for global citizenship through cross-cultural understanding and awareness.

Community Outreach and Impact: institution will focus on community service initiatives, partnering with local organizations, and addressing societal challenges through research, innovation, and social entrepreneurship.

Sustainability and Environmental Stewardship: object of the institute is to bring sustainability and environmental responsibility amongst the individuals so that they may strive to reduce their ecological footprint, integrate sustainable practices into campus operations, conduct research on environmental issues, and promote sustainability education and awareness among students and staff.

Sd/-

MR.ZULFIQAR ALI BHATTI
Member National Assembly

نیچون ادارہ برائے جدید علوم (این آئی اے ایس) کے قیام کے لئے احکام وضع کرنے کا

مُل

چونکہ یہ ضروری ہے کہ نیچون ادارہ برائے جدید علوم (این آئی اے ایس) شیخوپورہ کے قیام اور اس سے منسلک اور اسکے ضمنی معاملات کے لئے احکام وضع کئے جائیں؛

بذریعہ ہذا حسب ذیل قانون وضع کیا جاتا ہے:-

باب ۱

اہتمامیہ

۱۔ محکمہ عنوان، وسعت اور آغاز نفاذ:- (۱) یہ ایکٹ نیچون ادارہ برائے جدید علوم (این آئی اے ایس) ایکٹ، ۲۰۲۳ء کے نام سے موسوم ہوگا۔

(۲) یہ پورے پاکستان پر وسعت پذیر ہوگا۔

(۳) یہ فی الفور نافذ العمل ہوگا۔

۲۔ تعریفات:- اس ایکٹ میں، تا وقتیکہ کوئی شے متن یا سیاق و سباق کے منافی نہ ہو،---

(i) "اتھارٹی" سے مراد ایکٹ ہذا میں وضع کردہ کوئی اتھارٹی ہے؛

(ii) "بورڈ" سے مراد ادارہ (این آئی اے ایس) کا انتظامی ادارہ بورڈ آف گورنرز ہے؛

(iii) "چانسلر چیئرمین بورڈ" سے مراد ادارہ (این آئی اے ایس) کا چانسلر چیئرمین ہے؛

(iv) "چیئرمین" سے مراد تدریسی شعبے کا چیئرمین ہے؛

(v) "کونسل" سے ادارہ کی تعلیمی کونسل مراد ہے؛

(vi) "کمپنی" سے مراد نیچون ہیلتھ سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کمپنی ہے؛

(vii) "کمیشن" سے مراد ہائر ایجوکیشن کمیشن آرڈیننس، ۲۰۰۲ء (۵۳ بابت ۲۰۰۲ء) کے تحت تشکیل کردہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے؛

(viii) "ذیلی کالج" سے مراد ادارہ کی جانب سے کوئی بھی نام دیا گیا، برقرار رکھا گیا اور اسکے زیر انتظام کوئی تعلیمی ادارہ ہے؛

(ix) "ڈین" سے مراد فیکلٹی یا کسی ایسی تعلیمی ہیئت کا سربراہ ہے جسے ایکٹ ہذا یا قوانین موضوعہ یا ضوابط کے تحت فیکلٹی کا درجہ دیا گیا ہو؛

(x) "شعبہ" سے مراد صراحت کردہ طریقے کے مطابق ادارہ کی جانب سے برقرار رکھا گیا اور اسکے زیر انتظام، یا تسلیم کردہ تدریسی شعبہ ہے؛

(xi) "ڈائریکٹر" سے مراد اس ایکٹ کے تحت تفویض کردہ اختیارات کی رو سے قوانین موضوعہ یا ضوابط کے ذریعے ادارہ کی جانب سے بطور ذیلی ادارہ قائم کردہ ادارے کا سربراہ ہے؛

(xii) "فیکلٹی" سے مراد ایک یا ایک سے زائد سکولوں جو کہ مجوزہ ہوں، پر مشتمل ادارے کا انتظامی اور تعلیمی یونٹ ہے؛

(xiii) "حکومت" سے مراد وفاقی حکومت ہے؛

- (xiv) ”ادارہ“ سے مراد نیچون ادارہ برائے جدید علوم (این آئی اے ایس) ہے؛
- (xv) ”ادارہ کے استاد“ سے مراد ادارہ کی جانب سے تقرر کردہ اور اسکا تنخواہ داریا ادارہ کی جانب سے تسلیم کردہ کل وقتی استاد ہے؛
- (xvi) ”سرپرست“ سے مراد ادارہ کا سرپرست ہے؛
- (xvii) ”مجوزہ“ سے مراد ایک ہذا کے تحت وضع کردہ قوانین موضوعہ، ضوابط یا قواعد کے ذریعے تجویز کردہ ہے؛
- (xviii) ”پرنسپل“ سے مراد ذیلی یونٹ / کالج کا سربراہ ہے؛
- (xix) ”نمائندہ کمیٹیوں“ سے مراد دفعہ ۲۵ کے تحت تشکیل کردہ نمائندہ کمیٹیاں ہیں؛
- (xx) ”نظر ثانی پینل“ سے مراد چانسلر کی جانب سے ایک ہذا کی تصریحات کے مطابق تشکیل کردہ نظر ثانی پینل ہے؛
- (xxi) ”سرچ کمیٹی“ سے مراد بورڈ آف گورنرز کی جانب سے ایک ہذا کے تحت تشکیل دی گئی سرچ کمیٹی ہے؛
- (xxii) ”جدول“ سے مراد ایک ہذا کا جدول ہے؛
- (xxiii) ”قوانین موضوعہ، ضوابط اور قواعد سے مراد ایک ہذا کے تحت وضع کردہ اور فی الوقت نافذ العمل قوانین موضوعہ، ضوابط و قواعد ہیں؛
- (xxiv) ”سنڈیکیٹ“ سے مراد ادارے کا سنڈیکیٹ ہے؛
- (xxv) ”اساتذہ“ میں ادارہ یا ذیلی کالج کی جانب سے کل وقتی ملازمت پر رکھے گئے پروفیسر، ایسوسی ایٹ پروفیسر، اسٹنٹ پروفیسر، لیکچرار اور ضوابط کے ذریعے استاد قرار دیے گئے دیگر افراد شامل ہیں؛
- (xxvi) ”وائس چانسلر“ سے مراد ادارہ کا وائس چانسلر ہے؛

باب ۲

ادارہ

- ۳۔ ادارہ کا قیام و انضمام۔ (۱) ایک ادارہ قائم کیا جائے گا جو کہ نیچون ادارہ برائے جدید علوم (این آئی اے ایس)، شیخوپورہ کے نام سے موسوم ہوگا۔
- (۲) ادارہ حسب ذیل پر مشتمل ہوگا، یعنی:
- (الف) سرپرست، چانسلر، بورڈ آف گورنرز کے اراکین سنڈیکیٹ اور وائس چانسلر؛
- (ب) دفعہ ۱ کے تحت قائم کردہ ادارے کی اتھارٹیز کے اراکین؛
- (ج) ادارے کے تمام اساتذہ اور افراد جو وقتاً فوقتاً مقرر کردہ قیود کے مطابق ادارے کے طالب علموں کے طور پر تسلیم کئے گئے ہوں؛
- (د) ادارے کے دیگر تمام کل وقتی افسران اور عملے کے اراکین۔
- (۳) ادارہ ایسے نام سے جو نوٹیفائی کیا جائے ایک ہیئت اجتماعیہ ہوگا اور یہ دوامی توارث اور مشترکہ مہر کا حامل ہوگا اور یہ مذکورہ نام سے کسی کے خلاف مقدمہ کر سکے گا یا اس کے خلاف مقدمہ کیا جاسکے گا۔

(۴) ادارہ کوئی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد حاصل کرنے اور رکھنے، اور کسی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد، جو اس کے لئے وقف ہو یا اس نے حاصل کی ہو کو لیز پر دینے، فروخت کرنے یا بصورت دیگر منتقل کرنے کا مجاز ہوگا۔

(۵) باوجود اس امر کے کہ فی الوقت نافذ العمل کسی دیگر قانون میں کچھ مذکور ہو، ادارہ کو تعلیمی، مالی اور انتظامی خود مختاری بشمول مقررہ قیود پر افسران، اساتذہ اور دیگر ملازمین کو ملازمت دینے کا اختیار حاصل ہو گا جو ایک ہذا اور ہائر ایجوکیشن کمیشن آرڈیننس، ۲۰۰۲ء (نمبر ۵۳ بابت ۲۰۰۲ء) کی قیود سے مشروط ہے۔ خاص طور پر، قانون کے ذریعے کمیشن کو عطا کردہ اختیار پر اثر انداز ہونے بغیر، حکومت یا حکومت کی جانب سے مقرر کردہ کسی اتھارٹی یا آڈیٹر کو ادارہ کے سالانہ بجٹ میں بورڈ کی جانب سے منظور کردہ وسائل کی تخصیص کی بابت بنائی گئی پالیسی پر سوال کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔

۳۔ ادارہ کے اختیارات و فرائض:- ادارہ حسب ذیل اختیارات کا حامل ہوگا، یعنی:-

- (i) تعلیم کے ان شعبوں، جنہیں وہ مناسب تصور کرے میں تعلیم اور وظائف فراہم کرنا، اور تحقیق، معاشرے کی خدمت اور علم کے اطلاق، فروغ اور پھیلانے کا بندوبست ایسے طریقے سے کرنا، جس کا وہ تعین کرے؛
- (ii) ادارہ ہذا اور ذیلی کالجوں ریونیوں کی جانب سے منعقد کئے جانے والے مطالعاتی کورسز تجویز کرنا؛
- (iii) امتحانات لینا اور ان اشخاص کو ڈگریاں، ڈپلومے، اسناد اور دیگر تعلیمی امتیازات دینا اور عطا کرنا جن کو داخلہ دیا گیا ہو، اور جنہوں نے مقررہ شرائط کے تحت امتحانات میں کامیابی حاصل کی ہو؛
- (iv) ادارہ کے افسران، اساتذہ اور دیگر ملازمین کی ملازمت کی قیود و شرائط وضع کرنا اور ایسی قیود و شرائط وضع کرنا جو عمومی طور پر سرکاری ملازمین پر قابل اطلاق ہونے والی سے مختلف ہو سکتی ہیں؛
- (v) جہاں ضروری ہو، مقررہ مدت کے لئے اشخاص کا کنٹریکٹ پر تقرر کرنا اور ہر ایک کے تقرر کی شرائط کی صراحت کرنا؛
- (vi) مقررہ طریقہ کے مطابق منظور شدہ اشخاص کو اعزازی ڈگریاں یا دیگر امتیازات عطا کرنا؛
- (vii) ایسے اشخاص جو کہ ادارہ کے طالب علم نہ ہوں کے لئے ایسی ہدایات کی صراحت کرنا جو کہ یہ مقرر کر سکتا ہے، اور ایسے اشخاص کو اسناد اور ڈپلومہ عطا کرنا؛
- (viii) پاکستان کے اندر اور باہر، دیگر اداروں، یونیورسٹیوں، تعلیمی اداروں اور تحقیقی تنظیموں کے ساتھ طالب علموں اور اساتذہ کے باہمی تبادلوں کے لئے پروگرام شروع کرنا؛
- (ix) طالب علموں اور فارغ التحصیل طالب علموں کو کیریئر سے متعلق مشاورت اور ملازمت کی تلاش کی خدمات فراہم کرنا؛
- (x) فارغ التحصیل طالب علموں کے ساتھ روابط برقرار رکھنا؛
- (xi) فنڈ جمع کرنے کے منصوبوں کو تیار اور ان پر عمل درآمد کرنا؛
- (xii) ادارہ کی فیکلٹی کی تعلیمی ترقی کے ضمن میں معاونت کرنا اور اس کی صراحت کرنا؛
- (xiii) ان اشخاص کو جنہوں نے مقررہ شرائط کے تحت آزادانہ تحقیق کی ہو، کو ڈگریاں دینا؛

- (xiv) ادارہ کے طالب علموں کی طرف سے دیگر یونیورسٹیوں اور درسگاہوں میں پاس کئے گئے امتحانات اور گزارے گئے تعلیمی دورانیہ کو تسلیم کرنا اور ایسے امتحانات اور تعلیمی دورانیہ کو ادارہ کے امتحانات اور تعلیمی دورانیہ کے مساوی تسلیم کرنا، جیسا کہ یہ مقرر کرے، اور مذکورہ دی گئی منظوری واپس لینا؛
- (xv) اس طریقہ کار اور مقاصد کے مطابق جو مقرر کئے جائیں پاکستان اور بیرون پاکستان دیگر یونیورسٹیوں، سرکاری اداروں یا نجی تنظیموں کے ساتھ تعاون کرنا؛
- (xvi) پروفیسر شپ، ایسوسی ایٹ پروفیسر شپ، اسٹنٹ پروفیسر شپ اور لیکچرر شپ اور کوئی دیگر اسامیاں تخلیق کرنا اور ان پر اشخاص کا تقرر کرنا؛
- (xvii) تحقیق، توسیع، انتظام اور دوسری متعلقہ اغراض کے لئے اسامیاں تخلیق کرنا اور ان پر اشخاص کا تقرر کرنا؛
- (xviii) ادارے کے مراعات میں داخل کالجوں یا تعلیمی اداروں کے تدریسی عملہ کے منتخب شدہ اراکین یا ادارے کے اساتذہ کی حیثیت سے ایسے دیگر اشخاص، جیسا کہ وہ مناسب خیال کرے، کو تسلیم کرنا؛
- (xix) مقررہ شرائط کے تحت ضرورت مند طالب علموں کو مالی امداد کا آغاز کرنا اور فراہم کرنا، نیز فیلوشپ، اسکالرشپ، وظائف میڈلز اور انعامات دینا؛
- (xx) تدریسی اور تحقیقی ترقی اور تکنیکی تربیت اور خصوصی علوم کے فروغ کے لئے منسلک کالجوں، شعبہ جات، فیکلٹیز، ادارے، میوزیم اور تعلیم کے دیگر مراکز قائم کرنا اور ان کی دیکھ بھال، نگرانی اور انتظام کرنا جیسا کہ مجوز کیا جائے؛
- (xxi) ادارہ اور کالجوں کے طالب علموں کی رہائش کا اہتمام کرنا، رہائش گاہوں کے ہالوں کو قائم اور برقرار رکھنا اور ہاسٹلوں اور قیام گاہوں کی منظوری یا لائسنس فراہم کرنا؛
- (xxii) ادارہ کے کیمپسوں اور منسلک یونٹوں میں امن وامان، نظم و ضبط اور سیکیورٹی قائم کرنا؛
- (xxiii) طالب علموں کی غیر نصابی اور تفریحی سرگرمیوں کو فروغ دینا اور ان کی صحت اور عمومی بھلائی کے فروغ کے لئے انتظامات کرنا؛
- (xxiv) ایسی فیسیں اور دیگر اخراجات طلب کرنا اور وصول کرنا جن کا وہ تعین کرے؛
- (xxv) تحقیق، مشورے یا مشیرانہ خدمات کا انتظام کرنا اور ان مقاصد کے لئے دوسرے اداروں، سرکاری یا نجی ہیئتوں، تجارتی اور صنعتی اداروں کے ساتھ مقررہ شرائط کے تحت انتظامات میں شامل ہونے کے لئے صراحت کرنا؛
- (xxvi) معاہدات کرنا اور ان کی تعمیل کرنا، ان کو تبدیل یا منسوخ کرنا؛
- (xxvii) ادارہ کو منتقل کی گئی جائیداد اور دی گئیں امدادی رقوم، عطیات وصول کرنا اور ان کے انتظامات کرنا اور مذکورہ جائیداد، امدادی رقوم، میراث، امانیہ جات (ٹرسٹ)، حبہ جات، عطیات اور اوقاف یا چندہ جات کو ظاہر کرنے والے فنڈز کی سرمایہ کاری اس طریقہ کار کے مطابق کرنا جیسا کہ وہ مناسب سمجھے؛
- (xxviii) تحقیق اور دیگر تخلیقات کی طباعت اور اشاعت کا اہتمام کرنا؛ نیز
- (xxix) ایسے تمام دیگر افعال انجام دینا جو تعلیم، علم، تحقیق، پیشہ وارانہ اور تکنیکی تربیت، خصوصی تعلیم کے مرکز کے طور پر اور محسوس اور غیر محسوس ثقافتی ورثہ کے تحفظ کے مقاصد کی ترقی کے لئے مطلوب یا کارآمد ہوں۔

۵۔ ادارہ تمام طبقات اور حکام و غیرہ کے لئے کھلا ہو گا۔ (۱) ادارہ تمام اشخاص کے لئے کھلا ہو گا خواہ ان کی کوئی بھی صنف، مذہب،

نسل، عقیدہ، طبقہ، رنگ یا سکونت ہو اور کسی بھی شخص کو ان بنیادوں پر مراعات سے محروم نہیں کیا جائے گا۔

(۲) کسی فیس یا اخراجات میں اضافہ، جو کہ گزشتہ سالانہ بنیاد پر ہونے والے ایسے اضافے پر دس فیصد سالانہ اضافے کے علاوہ ہو،

ماسوائے خصوصی حالات اور صرف چانسلر کی منظوری کے بغیر نہیں کیا جائے گا۔

(۳) ادارہ ضرورت مند طالب علموں کے لئے مالی امداد کے پروگراموں کا آغاز کرے گا جو اس حد تک ہو گا جو دستیاب وسائل کی بنا

پر بورڈ آف گورنرز کی جانب سے قابل عمل سمجھے جائیں، تاکہ ادارہ کو داخلے اور رسائی کے قابل بنایا جائے اور اس کی جانب سے فراہم کردہ مختلف مواقع سے، ادائیگی کی اہلیت رکھنے کے بجائے میرٹ کی بنیاد پر فائدہ اٹھایا جاسکے۔

۶۔ ادارہ میں تدریس۔ (۱) ادارہ یا سکولوں میں مقررہ طریقہ کار کے مطابق مختلف کورسوں میں تمام تسلیم شدہ تعلیم، پیشہ وارانہ تکنیکی

تربیت دی جائے گی اور اس میں لیکچر، تشریحات، مباحثے، سمینار، عملی مظاہرے، فاصلاتی تعلیم و تدریس کے دیگر ذرائع کے ساتھ ساتھ لیبارٹریوں، ہسپتالوں، ورکشاپوں اور دیگر حکومتی یا نجی تنظیموں میں عملی کام شامل ہو گا۔ جو کہ کمیشن کی جانب سے مجوزہ پالیسیوں سے مشروط ہو گا۔

(۲) ادارہ پاکستان یا بیرون ملک میں ایسے مقامات جیسا کہ بورڈ آف گورنرز متعین کرے اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی پیشگی منظوری کے

ساتھ کسی بھی تعداد میں کیمپسز قائم کر سکتا ہے۔

(۳) تسلیم شدہ تدریس کو منظم کرنے کی ذمہ دار اتھارٹی ایسی ہو گی جیسا کہ مقرر کی گئی ہو۔

باب ۳

ادارہ کے افسران

۷۔ اعلیٰ افسران۔ ادارہ کے اعلیٰ افسران حسب ذیل ہوں گے، یعنی:-

(الف) سرپرست؛

(ب) چانسلر؛

(ج) وائس چانسلر؛

(د) پرووائس چانسلر؛

(ه) ڈنیر؛

(و) ذیلی کالجوں ریونشن کے پرنسپلز؛

(ز) تدریسی شعبوں کے چیئرمین؛

(ح) رجسٹرار؛

(ط) خزانچی؛

(ی) کنٹرولر امتحانات؛ اور

(ک) ایسے دیگر اشخاص جن کی قانون موضوعہ یا ضوابط کے ذریعے ادارے کے اعلیٰ افسران ہونے کی صراحت کی جائے۔

۸۔ سرپرست (۱) صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ادارہ کے سرپرست ہوں گے۔

(۲) سرپرست جب حاضر ہو تو ادارہ کے کانوکیشن کی صدارت کرے گا۔ سرپرست کی غیر موجودگی میں چانسلر ادارہ کے کانوکیشن کی صدارت کرے گا۔

(۳) اعزازی ڈگری دینے کی ہر تجویز سرپرست کی جانب سے توثیق سے مشروط ہوگی۔

۹۔ معائنہ۔ (۱) سرپرست مجوزہ قیود اور طریق ہائے کار کے مطابق ادارہ کے امور سے متعلق کسی معاملہ میں از خود یا کمیشن کی درخواست پر جیسا کہ تجویز کیا جائے معائنہ یا انکوآری کر سکتا ہے اور وقتاً فوقتاً کسی شخص یا اشخاص کو درج ذیل کی جانچ پڑتال یا معائنہ کرنے کی ہدایت جاری کرے گا۔

(الف) ادارہ، اس کی عمارت، تجربہ گاہوں، لائبریریوں یا دیگر سہولیات؛

(ب) ادارہ کے زیر انتظام کوئی ادارہ، شعبہ یا ہاسٹل؛

(ج) مالی انسانی وسائل کی موزونیت؛

(د) تدریس، تحقیق، نصاب، امتحان اور ادارے کے دیگر امور؛

(ه) سرپرست کے شخص کردہ ایسے دیگر امور۔

(۲) سرپرست معائنہ کے نتائج کی بابت اپنی آراء بورڈ آف گورنرز کو پہنچائے گا اور بورڈ آف گورنرز کی آراء معلوم کرنے کے بعد چانسلر کو اس پر کارروائی کرنے کا مشورہ دے گا۔

(۳) چانسلر، سرپرست کی جانب سے مقررہ وقت کے اندر اسے ایسی کارروائی، اگر کوئی ہو، کا بتائے گا، جو معائنہ کے نتائج پر کی گئی ہو یا کئے جانے کی تجویز ہو۔

(۴) جہاں بورڈ آف گورنرز مقررہ وقت کے اندر ایسا اقدام نہیں اٹھاتا جس سے سرپرست مطمئن ہو تو سرپرست ہدایات جاری کر سکتا ہے جنہیں وہ مناسب خیال کرے اور بورڈ آف گورنرز ان تمام ہدایات پر عمل درآمد کرے گا۔

۱۰۔ چانسلر۔ (۱) نیپون ہیلتھ سروس کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے بورڈ آف گورنرز کا چیئر پرسن ادارے کا چانسلر ہوگا۔

(۲) بورڈ آف گورنرز کے اراکین کے ساتھ ساتھ وائس چانسلر کی تقرری چانسلر کی جانب سے اس مقصد کے لئے ایکٹ ہذا اور قانون موضوعہ یا جیسی بھی صورت ہو کی روشنی میں تشکیل کردہ علی الترتیب نمائندہ کمیٹی کی جانب سے منتخب افراد کے ساتھ سفارش کردہ افراد میں سے کی جائے گی۔

(۳) اگر چانسلر سمجھتا ہے کہ ادارہ یا اتھارٹی کے معاملات میں سنگین بے ضابطگی یا بد انتظامی وقوع پذیر ہوئی ہے تو وہ:-

(الف) بورڈ آف گورنرز کی کارروائیوں کے ضمن میں، ان مخصوص کارروائیوں پر دوبارہ غور کرنے اور ہدایت کے جاری کئے جانے کے ایک ماہ کے اندر مناسب اقدام کرنے کی ہدایت جاری کر سکتا ہے؛

بشرطیکہ اگر چانسلر سمجھتا ہو کہ یا تو دوبارہ غور نہیں کیا گیا ہے یا پھر دوبارہ غور کرنے سے اس کا مقصد پورا

نہیں ہوا ہے، تو وہ بورڈ سے اظہار وجوہ کا تحریری جواب طلب کرے گا اور ایک پانچ رکنی جائزہ پینل مقرر کرے گا

تاکہ وہ بورڈ آف گورنرز کے کار منصبی کا جائزہ لے اور اس ضمن میں چانسلر کو رپورٹ پیش کرے۔ نظر ثانی پینل کا

انتخاب تعلیم، قانون، حسابداری اور انتظامی شعبوں میں معروف اور نمایاں اشخاص میں سے کیا جائے گا نیز نظر ثانی پینل کی رپورٹ چانسلر کی جانب سے مقررہ وقت کے اندر پیش کی جائے گی؛ نیز

(ب) جہاں تک کسی اتھارٹی کی کارروائیوں یا بورڈ آف گورنرز کے علاوہ کسی اتھارٹی کے اختیارات کے اندر معاملات کا تعلق

ہے، تو وہ بورڈ آف گورنرز کو دفعہ ۲۴ کے تحت اختیارات استعمال کرنے کی ہدایت دے سکتا ہے؛

۱۱۔ بورڈ آف گورنرز سے برطرفی:- (۱) چانسلر نظر ثانی پینل کی سفارش پر، کسی شخص کو درج ذیل وجوہات کی بناء پر بورڈ آف گورنرز کی رکنیت سے برطرف کر سکتا ہے کہ ایسا شخص:

(الف) اس کا ذہنی توازن درست نہ ہو، یا

(ب) بورڈ آف گورنرز کے رکن کی حیثیت سے فرائض سرانجام دینے کے قابل نہ رہا ہو؛ یا

(ج) عدالت کی جانب سے اخلاقی گراؤٹ جیسے کسی جرم کا مجرم قرار دیا گیا ہو؛

(د) بغیر کسی ٹھوس وجہ کے دو مسلسل اجلاسوں سے غیر حاضر رہا ہو؛ یا

(ه) بد انتظامی، بشمول کسی بھی قسم کے ذاتی فائدے کے لئے عہدے کے استعمال یا فرائض منصبی کی ادائیگی میں صریحاً نااہلی کا مرتکب قرار دیا گیا ہو۔

(۲) چانسلر، بورڈ آف گورنرز کے کم از کم تین چوتھائی ارکان کی حمایت سے منظور کردہ مذکورہ شخص کی برخاستگی کے لئے قرارداد کے

بعد کسی شخص کو بورڈ آف گورنرز کی رکنیت سے برخاست کرے گا؛

بشرطیکہ مذکورہ قرارداد سے قبل بورڈ آف گورنرز متعلقہ رکن کو شفاف سماعت کا موقع فراہم کرے گا۔

مزید شرط یہ ہے کہ اس دفعہ کی تصریحات کا بورڈ آف گورنرز کے رکن کے طور پر وائس چانسلر پر اطلاق نہیں ہوگا۔

۱۲۔ وائس چانسلر:- (۱) ادارہ کا ایک وائس چانسلر ہو گا جو نمایاں ماہر تعلیم ہو گا یا ممتاز منتظم ہو گا اور مجوزہ شرائط قیود پر اس کا تقرر کیا جائے گا۔

(۲) وائس چانسلر ادارہ کا چیف ایگزیکٹو آفیسر ہو گا جو ادارہ کے تمام انتظامی اور تعلیمی امور اور ادارہ کی عمومی کارکردگی اور بہتر نظم

و نسق ایکٹ ہذا کی تصریحات قانون، ضوابط اور قواعد پر عمل درآمد کا ذمہ دار ہوگا۔ وائس چانسلر بشمول ادارہ کے افسران، اساتذہ اور دیگر ملازمین پر انتظامی کنٹرول اس مقصد کے لئے تمام مجوزہ اختیارات کا حامل ہوگا۔

(۳) وائس چانسلر اگر موجود ہو تو ادارہ کی کسی اتھارٹی یا باڈی کے کسی اجلاس میں شرکت کا مستحق ہوگا۔

(۴) وائس چانسلر، ہنگامی حالت میں جس میں کہ اس کی رائے میں فوری کارروائی کرنا درکار ہو اور ایسی کارروائی کرنا عموماً وائس چانسلر

کے دائرہ اختیار میں نہ آتی ہو، تو وہ ایسی کارروائی کر سکے گا اور بورڈ آف گورنرز کی ہنگامی کمیٹی، قانون موضوعہ کے ارکان کو بہتر گھنٹوں کے اندر رپورٹ پیش کرے گا۔ ہنگامی کمیٹی ایسی مزید کارروائی، جو مناسب سمجھی جائے، کرنے کا حکم دے سکے گی۔

(۵) وائس چانسلر حسب ذیل اختیارات استعمال کر سکے گا، یعنی:-

(الف) ادارہ کے معلمین، افسران اور دوسرے ملازمین کو ادارہ میں امتحان، انتظام اور ایسی دوسری سرگرمیوں سے متعلق

ایسے امور تفویض کرے گا جو وہ ادارہ کے اغراض کے لئے ضروری سمجھے؛

(ب) دوبارہ مد ہندی کے ذریعے اتنی رقم کی منظوری دینا جو اس رقم سے زیادہ نہ ہو جس کی بورڈ آف گورنرز کی جانب سے کسی ایسی نادیدہ مد میں منظوری دی گئی ہو جو بجٹ میں شامل نہ ہو اور آئندہ اجلاس میں بورڈ آف گورنرز کو رپورٹ کرے گا۔

(ج) ادارہ کے اس قسم کے ملازمین کا تقرر اس طریقہ کار کے مطابق کرنا جن کی صراحت قوانین موضوعہ میں کر دی گئی ہو؛

(د) ادارہ کے افسران، اساتذہ اور دوسرے ملازمین کو، مقررہ طریقہ کار کے مطابق ملازمت سے معطل کرنا، سزا دینا اور برطرف کرنا سوائے ان کے جن کی تقرری بورڈ آف گورنرز کی جانب سے یا اس کی منظوری سے ہوئی ہے؛

(ه) ان شرائط کے تابع جو مقرر کی جائیں، اس ایکٹ کے تحت کوئی اختیارات ادارہ کے افسر یا افسران کو تفویض کر سکے گا؛ اور

(و) ایسے دوسرے اختیارات اور کارہائے منصبی استعمال کرے گا اور انجام دے گا جیسے کہ مقررہ ہوں۔

(۶) وائس چانسلر، چانسلر کی عدم موجودگی وغیرہ حاضری میں ادارہ کے تمام کانووکیشن کی صدارت کرے گا۔

(۷) وائس چانسلر تعلیمی سال ختم ہونے کے تین ماہ کے اندر بورڈ آف گورنرز کے سامنے سالانہ رپورٹ پیش کرے گا۔ سالانہ

رپورٹ میں ایسی معلومات پیش کی جائیں گی جو کہ زیر نظر ثانی تعلیمی سال سے متعلق ہوں جیسا کہ مقررہ ہو، بشمول حسب ذیل پر مشتمل تمام متعلقہ حقائق بورڈ ممبران کے علم میں لائے گا۔

(الف) تعلیمی؛

(ب) تحقیقی؛

(ج) انتظامی؛ اور

(د) مالیاتی۔

(۸) وائس چانسلر کی سالانہ رپورٹ بورڈ آف گورنرز کے روبرو پیش ہونے سے قبل تمام افسران اور ادارہ کے معلمین کو فراہم کی

جائے گی اور اتنی تعداد میں شائع کی جائے گی جو اس کی وسیع تشہیر کو یقینی بنانے کے لئے ضروری ہو۔

۱۳۔ وائس چانسلر کی تقرری اور برطرفی۔ (۱) وائس چانسلر کا تقرر بورڈ آف گورنرز کی طرف سے پیش کردہ سفارشات پر چانسلر کرے گا۔

(۲) بورڈ آف گورنرز، وائس چانسلر کے تقرر کے لئے موزوں افراد کی سفارش کرنے کے لئے تحقیقی کمیٹی کی تشکیل اس تاریخ کو اور

اس طریقے سے کرے گی جو قانون موضوعہ کے مطابق مقرر کئے جائیں اور یہ چانسلر کی جانب سے نامزد کردہ معاشرے کے دو نمایاں افراد، جن میں سے ایک کو کنویز مقرر کیا جائے گا، بورڈ آف گورنرز کے دو اراکان، دو ممتاز ادارہ کے اساتذہ جو کہ بورڈ آف گورنرز کے اراکان نہ ہوں، اور ایک ممتاز

ماہر تعلیم جو ادارہ کا ملازم نہ ہو، پر مشتمل ہوگی۔ دو نمایاں ادارہ کے اساتذہ کا بورڈ آف گورنرز کی جانب سے بورڈ کے مجوزہ طریق کار کے ذریعے انتخاب ہو گا جو عمومی طور پر ادارہ کے اساتذہ کی جانب سے موزوں ناموں کی سفارش کی صراحت کرتا ہے۔ تحقیقی کمیٹی چانسلر کی جانب سے آنے

والے وائس چانسلر کے تقرر تک موجود رہے گی۔

(۳) بورڈ آف گورنرز کی جانب سے وائس چانسلر کی تقرری کے لئے سرچ کمیٹی کی جانب سے مجوزہ فرد پر غور کیا جائے گا اور بورڈ آف گورنرز کی جانب سے چانسلر کو تین افراد کے نام ترجیحی ترتیب کے پینل کی سفارش کی جائے گی؛

بشرطیکہ، چانسلر سفارش کردہ تین افراد کی تقرری کو رد کر سکتا ہے اور نئے پینل کی سفارشات طلب کر سکتا ہے۔ چانسلر کی جانب سے طلب کردہ نئی سفارشات کے موقع پر سرچ کمیٹی مجوزہ طریقہ کار میں بورڈ آف گورنرز کو تجویز دے گی۔

(۴) قانون موضوعہ کے تحت مقرر کردہ قیود و شرائط کے مطابق وائس چانسلر کے عہدہ کی مدت قابل تجدید عرصہ چار سال کے لئے ہوگی۔ وائس چانسلر کی مدت ملازمت کی تجدید کیلئے بورڈ آف گورنرز کی جانب سے ایسی تجدید کے حق میں قرارداد موصول ہونے پر چانسلر، وائس چانسلر کی مدت ملازمت کی تجدید کرے گا۔

مگر شرط یہ ہے کہ چانسلر بورڈ آف گورنرز کو ایسی قرارداد پر دوبارہ غور کرنے کا کہہ سکتا ہے۔

(۵) بورڈ آف گورنرز اپنے اراکین کی تین چوتھائی تعداد کی جانب سے منظور شدہ قرارداد کی تعمیل میں چانسلر کو سفارش کرے گا کہ وائس چانسلر کو نااہلیت، اخلاقی گراؤ یا جسمانی یا دماغی معذوری یا غلط رویہ بشمول کسی طرح کے ذاتی مفاد کے لئے عہدہ کے غلط استعمال کی بناء پر برطرف کیا جائے۔

مگر شرط یہ ہے کہ چانسلر بورڈ آف گورنرز کے لیے ریفرنس تیار کرے گا جس میں وائس چانسلر کی نااہلیت، اخلاقی پستی یا جسمانی یا ذہنی عدم استعداد یا مجموعی بد انتظامی کی مثالیں جو اس کے علم میں آئیں بیان کرے گا۔ ریفرنس پر غور و خوض کے بعد بورڈ آف گورنرز، اس کے دو تہائی اراکین کی اکثریت سے منظور کردہ قرارداد کے مطابق چانسلر کو وائس چانسلر کی برخاستگی کی سفارش کرے گا:

مزید شرط یہ ہے کہ وائس چانسلر کی برخاستگی کی قرارداد پر دو ٹونگ سے قبل وائس چانسلر کو شنوائی کا موقع دیا جائے گا۔

(۶) وائس چانسلر کی برخاستگی کی سفارش کی قرارداد فی الفور چانسلر کو پیش کی جائے گی۔ چانسلر سفارشات کو قبول کر سکتا ہے اور وائس چانسلر کی برخاستگی کا حکم دے سکتا ہے یا سفارشات بورڈ آف گورنرز کو واپس بھجوا سکتا ہے۔

(۷) کسی بھی وقت جب وائس چانسلر کا عہدہ خالی ہو، یا وائس چانسلر غیر حاضر ہو یا بیماری یا کسی دوسری وجوہات کی بناء پر اپنے عہدہ کے کارہائے منصبی ادا کرنے کے قابل نہ ہو تو بورڈ آف گورنرز، وائس چانسلر کے فرائض کی ادائیگی کے لیے ایسے انتظامات کرے جیسا کہ وہ مناسب خیال کرے۔

۱۳۔ رجسٹرار۔ (۱) ادارے کا ایک رجسٹرار ہو گا جس کی تقرری وائس چانسلر کی سفارش پر مقرر کردہ قیود و شرائط کے مطابق بورڈ آف گورنرز کی جانب سے کی جائے گی۔

(۲) رجسٹرار کے عہدہ پر تقرری کے لئے ضروری تجربہ اور پیشہ ورانہ و تعلیمی قابلیت وہی ہوگی جیسا کہ مقرر ہو۔

(۳) رجسٹرار ادارہ کا کل وقتی افسر ہو گا اور حسب ذیل امور انجام دے گا:

(الف) ادارے کے سیکرٹریٹ کا انتظامی سربراہ ہو گا اور ادارہ کے حکام کے لئے سیکرٹریٹ (دفتری) معاونت کے اہتمام کا ذمہ دار ہوگا؛

(ب) مشترکہ مہر اور ادارہ کے تعلیمی ریکارڈ کا نگران ہوگا؛

(ج) مقررہ طریقہ کار پر اندراج شدہ گریجویٹس کار رجسٹرار قرار رکھے گا؛

(د) مقررہ طریقہ پر مختلف حکام اور دیگر ہیٹوں کے اراکین کے انکیشن کی کارروائی، تقرر یا انتخاب کی نگرانی کرے گا؛

اور

(ه) مذکورہ دیگر فرائض منصبی ادا کرے گا جیسا کہ مقرر ہو۔

(۳) رجسٹرار کے عہدہ کی مدت قابل تجدید عرصہ تین سال کے لئے ہوگی:

مگر شرط یہ ہے کہ وائس چانسلر کے مشورے پر بورڈ آف گورنرز مجوزہ طریق کار کی روشنی میں ناقص کارکردگی اور غلط روی کی بنیاد پر رجسٹرار کی تقرری کو ختم کر سکتا ہے۔

۱۵۔ خزانی۔ (۱) ادارے کا ایک خزانچی ہو گا جس کا تقرر بورڈ آف گورنرز کی جانب سے وائس چانسلر کی سفارش پر مقرر کردہ قیود و شرائط کے مطابق کیا جائے گا۔

(۲) خزانچی کے عہدہ پر تقرر کے لئے ضروری تجربہ اور پیشہ وارانہ اور تعلیمی قابلیت وہی ہوگی جیسا کہ مقرر ہو۔

(۳) خزانچی ادارے کا چیف فنانشل آفیسر ہو گا اور حسب ذیل امور انجام دے گا۔۔۔

(الف) ادارہ کے اثاثہ جات، واجبات، وصولیات، اخراجات اور فنڈز اور سرمایہ کاریوں کا انتظام کرے گا؛

(ب) ادارہ کا سالانہ اور نظر ثانی شدہ میزانیاتی تخمینہ کی تیاری کرنا اور اس کو سنڈیکیٹ یا اس کی کمیٹی کو منظوری کے لئے پیش کرنا اور میزانیہ میں اس کا انضمام بورڈ آف گورنرز کو پیش کیا جائے گا؛

(ج) اس بات کو یقینی بنانا کہ ادارہ کے فنڈز ان اغراض کے لئے استعمال ہوئے ہیں جن کے لئے وہ فراہم کئے گئے تھے؛

(د) ادارہ کے کھاتوں (اکاؤنٹس) کا سالانہ آڈٹ کروانا جو مالی سال کے اختتام کے چھ ماہ کے اندر بورڈ آف گورنرز کو پیش

کیا جائے گا؛ نیز

(ه) ایسے دوسرے فرائض منصبی ادا کرنا جیسا کہ مقرر کئے جاسکتے ہیں۔

(۳) خزانچی کے عہدہ کی معاد قابل تجدید تین سال کے لئے ہوگی:

مگر شرط یہ ہے کہ وائس چانسلر کے مشورے سے بورڈ آف گورنرز مجوزہ طریق کار کی روشنی میں ناقص کارکردگی اور غلط روی کی بنیاد پر خزانچی کی تقرری کو ختم کر سکتا ہے۔

۱۶۔ ناظم امتحانات۔ (۱) بورڈ آف گورنرز کی جانب سے وائس چانسلر کی سفارش پر مقرر کردہ قیود و شرائط پر ناظم امتحانات کا تقرر کیا جائے گا۔

(۲) ناظم امتحانات کے عہدہ پر تقرر کے لئے کم از کم ضروری تعلیمی قابلیت وہ ہوگی جیسا کہ مقرر ہو۔

(۳) ناظم امتحانات ادارہ کا کل وقتی افسر ہو گا اور تمام معاملات جو کہ امتحانات کے انعقاد سے منسلک ہیں اور ایسے دوسرے فرائض کی

اداگی کا ذمہ دار ہو گا جیسا کہ مقرر ہو:

(۳) ناظم امتحانات کی تقرری قابل تجدید عرصہ تین سال کے لئے ہوگی:

مگر شرط یہ ہے کہ وائس چانسلر کے مشورے پر بورڈ آف گورنرز کنٹرولر امتحانات کو مقررہ طریقہ کار کی روشنی میں ناقص کارکردگی اور غلط روی کی بنیاد پر کنٹرولر امتحانات کی تقرری کو ختم کر سکتا ہے۔

۱۷۔ ڈائریکٹر منصوبہ بندی و ترقی۔ (۱) بورڈ آف گورنرز کی جانب سے سینڈیکٹ کی سفارش پر مقررہ قیود و شرائط کے مطابق تین سال کی مدت کے لئے (ایک دفعہ کے لئے قابل توسیع) ادارہ کے ڈائریکٹر منصوبہ بندی و ترقی کا تقرر کیا جائے گا۔

(۲) ڈائریکٹر منصوبہ بندی و ترقی کی اسامی کے لئے تعلیمی اور پیشہ دارانہ قابلیت اور کم سے کم تجربہ، جو ضروری ہو، ایسی ہوں گی جو مقرر کی جاسکتی ہیں۔

(۳) ڈائریکٹر منصوبہ بندی و ترقی، منصوبہ بندی و ترقی سے منسلک تمام معاملات کا ذمہ دار ہو گا اور مقرر کردہ ایسے دیگر فرائض منصبی سرانجام دے گا۔

(۴) ڈائریکٹر منصوبہ بندی و ترقی حسب ذیل امور سرانجام دے گا۔

(i) ادارہ کی انتظامیہ رپورٹ آف گورنرز کی جانب سے وضع کردہ مقاصد، اہداف اور ترجیحات کے حصول کے لئے ترقیاتی پروگرامات اور قلیل اور طویل المدتی منصوبے تیار کرے گا؛

(ii) جامع نظر ثانی، جائزہ اور منصوبہ بندی و ترقی کے طریقہ کار اور دستور العمل (منصوبے کی نشاندہی، جائزہ، انتخاب، عمل درآمد اور نگرانی) کے تجزیے کا انعقاد کرے گا؛

(iii) صورتحال کے تجزیہ کے نتائج پر جہتی منصوبہ بندی و ترقی کے طریقہ ہائے کار اور دستور العمل کو بہتر کرنے کے لئے حکمت عملی تربیت دے گا؛

(iv) ادارہ کے لئے پی سی-I اور ترقیاتی منصوبوں کے پروپوزل میں تکنیکی معاونت فراہم کرے گا؛

(v) پی سی-I، پی سی-II، پی سی-III، پی سی-IV اور پی سی-V تیار کرے گا؛

(vi) ماہانہ اور سہ ماہی پیش رفت رپورٹوں کی تیاری؛

(vii) ورکس، خریداری، اسٹوریونٹس اور اکاؤنٹس کے ساتھ رابطہ؛

(viii) مختلف محیر حضرات سے بات چیت کرے گا، منصوبے اور رپورٹیں پیش کرے گا؛

(۵) بورڈ آف گورنرز، سینڈیکٹ کے مشورہ و سفارشات پر ڈائریکٹر منصوبہ بندی و ترقی کی تقرری کو مجوزہ طریق کار کی روشنی میں ناقص کارکردگی اور غلط روی کی بنیاد پر ختم کر سکتا ہے۔

۱۸۔ ڈائریکٹر معیار بہتر بنانے کا عمل (کیو ای سی)۔ (۱) بورڈ آف گورنرز کی جانب سے سینڈیکٹ کی سفارش پر مقرر کردہ قیود و شرائط کے مطابق تین سال کی قابل توسیع مدت کے لئے ادارہ کے معیار کو بہتر بنانے کے شعبہ (کیو ای سی) کے ڈائریکٹر کا تقرر کیا جائے گا۔

(۲) معیار کو بہتر بنانے کے شعبہ (کیو ای سی) کے ڈائریکٹر کی اسامی کے لئے تعلیمی اور پیشہ دارانہ قابلیت کم سے کم تجربہ، ایسے ہوں گے، جو مقرر کئے جاسکتے ہوں؛

(۳) معیار کو بہتر بنانے کے شعبہ (کیو ای سی) کا ڈائریکٹر ذمہ دار ہو گا؛

(i) ہر مضمون میں پڑھانے اور سیکھنے کے معیارات کی نظر ثانی؛

(ii) پروگراموں کے معیارات کے مؤثر انتظام کے حوالے سے دیگر اداروں کے ساتھ ایکڈمک رابطہ پر نظر ثانی؛

(iii) نظر ثانی کے لئے حوالہ نکات، کے واضح معیارات وضع کرنا۔ اس سے ملازمین کو بھی مدد حاصل ہوگی کہ وہ اس بات کا اندازہ کر سکیں کہ امیدواروں سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؛

(iv) قابلیتوں کا فریم ورک تیار کرنا جس میں خوبیاں اور صلاحیتیں شامل ہوں جس میں قابلیت کے حامل فرد سے توقع کی جاسکتی ہو، یعنی گریجویٹ اور انڈر گریجویٹ پروگرامات،

(v) پروگراموں کی تخصیصات تیار کرنا یعنی وہ معلومات کے مقررہ معیارات جو اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ کامیابی سے خصوصی پروگرام مکمل کرنے پر طالب علم سے کون سی معلومات، شعور، مہارت اور دیگر خصوصیات حاصل کی ہیں؛

(vi) معیار کو بہتر بنانے اور تشخیص کے طریقہ ہائے کار مرتب کرنا جس سے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ معیارات برقرار ہوں اور مضامین اور عملہ کی ترقی کے لئے تحقیق اور دیگر علمی سرگرمیوں کے ساتھ اعلیٰ قسم کا نصاب تیار ہو سکے؛

(vii) اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ادارہ کے معیارات کے طریقہ ہائے کار قومی و بین الاقوامی سطح پر نافذ العمل انتظامات کے مطابق ہوں تاکہ اعلیٰ تعلیم کے معیار کو بہتر اور برقرار رکھا جاسکے۔

(viii) حسب ذیل کے لئے معیار، طریقہ ہائے کار کی تیاری، نگرانی اور تشخیص کے نظام ہائے کار کو برقرار رکھا جائے؛
الف) نئے پروگرام کی منظوری؛

ب) سالانہ نگرانی و تشخیص بشمول پروگرام کی نگرانی، فیصلگی کی نگرانی اور طلبہ کی فراست؛
ج) محکمہ جاتی نظر ثانی؛

د) طلبہ کا فیڈ بیک؛

ه) آجر کا فیڈ بیک؛

و) انڈر گریجویٹ، گریجویٹ اور ڈاکٹریل پروگراموں کے معیار کو یقینی بنانا؛

ز) ادارہ جاتی تخمینہ اور کارکردگی جائزہ؛

ح) پروگرام کی تخصیصات؛ نیز

ط) قابلیت کا فریم ورک؛

(ix) معیار کو بہتر بنانے کے شعبے (کیو ای سی) کا ڈائریکٹر تمام قانونی اداروں، ادارہ کی کمیٹیوں کا رکن ہوگا؛

(۴) بورڈ آف گورنرز کی جانب سے سینڈیکٹ کے مشورہ، سفارشات پر مقررہ طریقہ کار کے تحت معیار کو بہتر بنانے کے شعبے

کے ڈائریکٹر (کیو ای سی) کی تقرری کو نااہلی اور غلط روی کی بنیاد پر ختم کر سکتا ہے۔

۱۹۔ ڈائریکٹر آفس برائے تحقیق، جدت و کمر ہلائیژیشن (او آر آئی سی)۔ (۱) بورڈ آف گورنرز کی جانب سے سینڈیکٹ کی سفارش پر تین

سال کی قابل توسیع مدت کے لئے مقررہ قیود و شرائط کے تحت ادارہ کے ڈائریکٹر (او آر آئی سی) کا تقرر کیا جائے گا۔

(۲) ڈائریکٹر (او آر آئی سی) کی اسامی پر تقرری کے لئے تعلیمی و پیشہ وارانہ قابلیت اور کم سے کم تجربہ ایسے ہوں گے جو مقرر کئے جا

سکتے ہوں۔

- (۳) ڈائریکٹر (آر ایس ایم آئی سی) درج ذیل امور سرانجام دے گا:-
- (i) ادارے کی تحقیقی سرگرمیوں کا انتظام کرنا اور ان کو فروغ دینا، تحقیقی پالیسیاں اور ترجیحات وضع کرنا، تحقیق کی بابت فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے کام کرنا، فیکٹی، کاروباری برادری اور صنعت کو تحقیق تجارتی پیمانے پر استوار کرنے کے لیے متحرک کرنا، اور یونیورسٹی / ادارے اور اس کے اسٹیک ہولڈرز اور معاونین و وسیع تر کمیونٹی کے ساتھ مل کر تحقیق کرنے کے لیے ایک موثر داعی کا کردار ادا کرنا۔
- (ii) تحقیق کے انتظام (بجٹ سازی، آڈٹنگ، حسابات، انسانی وسائل، سہولیات اور ساز و سامان کا انتظام و دیکھ بھال، تحقیق کے معاہدوں پر عملدرآمد اور انسانی وسائل سمیت دفتر برائے تحقیق کے آپریشن کے تمام پہلوؤں کی نگرانی کرنا؛
- (iii) ایسے پروگرام اور سرگرمیاں تشکیل دینا جو تمام سرکاری و نجی ذرائع سے فنڈ میں اضافہ کریں، مخیر حضرات اور نجی ذرائع کے ساتھ بہترین تعلقات قائم اور استوار کرنا، تجاویز کی تیاری اور انہیں پیش کرنے کے عمل کی نگرانی کرنا؛
- (iv) ادارے کی تحقیق کی حمایت میں سرکاری و نجی شراکت داری کو فروغ دینا؛ ادارے کی تحقیقی برادری کو کارپوریٹ سیکٹر کی ضروریات اور ترجیحات سے متصل کرنا، عملی تحقیق کے لیے مواقع پیدا کرنا اور ٹیکنالوجی کی منتقلی اور ادارے کی تحقیق (بشمول انکیوبیٹرز اور ریسرچ پارکس) کو تجارتی پیمانے پر استوار کرنے کے مواقع تلاش کرنا۔
- (v) لائسنسوں کے ضمن میں رائلٹی وصول کرنے کی ذمہ داری؛
- (vi) ادارے کے آئی پی کو دیگر متعلقہ محکمے اور افسران کے تعاون سے تجارتی خطوط پر استوار کرنے کی بابت تکنیکی مارکنگ اور لائسنسنگ کے لیے اعلیٰ رابطہ کار کے ساتھ مل کر کام کرنا؛
- (vii) ڈائریکٹر (او آر آئی سی) دفتر برائے تحقیق و ترقی، منصوبہ بندی و ترقی اور ادارے کے ٹیکنالوجی پارک کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔
- (۴) سینڈکیٹ کی سفارش / مشورے پر بورڈ آف گورنرز ناقص کارکردگی یا غلط روی کی بنیاد پر ڈائریکٹر (او آر آئی سی) کو مقررہ طریقہ کار کے مطابق برطرف کر سکتا ہے۔

باب ۴

ادارہ کی اہمات

- ۲۰۔ اہمات۔ (۱) ادارے کی درج ذیل اہمات ہوگی، یعنی:-
- (الف) ایکٹ ہذا کے ذریعے تشکیل کردہ اہمات:-
- (i) بورڈ آف گورنرز
- (ii) سینڈکیٹ؛
- (iii) تعلیمی کونسل؛
- (ب) قوانین موضوعہ کے ذریعے تشکیل کی جانے والی اہمات:-
- (i) مجلس برائے جدید مطالعات و تحقیق؛

- (ii) مجلس مطالعات؛
- (iii) سلیکشن بورڈ؛
- (iv) مالیات و منصوبہ بندی کمیٹی؛
- (v) وائس چانسلر کی تقرری کی بابت سرچ کمیٹی؛
- (vi) بورڈ آف گورنرز، سینڈیکٹ اور تعلیمی کونسل کی تقرری کے لیے نمائندہ کمیٹیاں؛
- (vii) معیار یقینی بنانے کی کمیٹی؛ اور
- (viii) کمیٹی برائے نظم و ضبط؛ نیز

(۲) بورڈ آف گورنرز، سینڈیکٹ اور تعلیمی کونسل ایسی دیگر کمیٹیاں یا ذیلی کمیٹیاں، جو بھی نام دیئے جائیں، تشکیل دے سکتے ہیں جو

قوانین موضوعہ یا ضوابط کے ذریعے بنانا مقصود ہوں۔ یہ کمیٹیاں یا ذیلی کمیٹیاں ایکٹ ہذا کی اغراض کے لیے ادارے کی اتھارٹیز ہوں گی۔

۲۱۔ بورڈ آف گورنرز (۱) ادارے کا نظم و نسق چلانے کی ذمہ داریت بورڈ آف گورنرز کہلائے گی، جو درج ذیل پر مشتمل ہوگا، یعنی:-

(الف) چانسلر، جو بورڈ آف گورنرز کا چیئر پرسن ہوگا؛

(ب) وائس چانسلر؛

(ج) پرو وائس چانسلر؛

(د) ایک حکومتی رکن، جو متعلقہ وزارت یا بالخصوص اس ادارے سے متعلقہ کسی دیگر محکمے کے ایڈیشنل سیکرٹری سے کم درجے کا نہ ہو؛

(ه) معاشرے سے مجموعی طور پر چار افراد، ترجیحاً دو یا کم از کم ایک خاتون، جو انتظامیہ، انتظام و انصرام، تعلیم، تدریس، قانون،

حسابات، طب، فنون لطیفہ، فن تعمیر، زراعت، سائنس، ٹیکنالوجی، صنعت اور انجینئرنگ کے شعبہ جات سے متعلقہ ہوں جیسا

کہ ان افراد کی تقرری مختلف شعبوں میں توازن کی عکاس ہو؛

(و) ادارے کے فارغ التحصیل طلباء میں سے ایک فرد؛

(ز) ادارے کے ملازم کے علاوہ ملک کی تدریسی برادری سے دو افراد، جو کسی کالج کے پروفیسر یا پرنسپل کے عہدے پر فائز ہوں؛

(ح) ادارے کے چار اساتذہ (ہر عہدے میں سے ایک، یعنی پروفیسر، ایسوسی ایٹ پروفیسر، اسٹنٹ پروفیسر اور لیکچرار)؛

(ط) کمیشن کی جانب سے نامزد کردہ ایک فرد؛

(ی) نیپون ہیلتھ سروسز کمیٹی (پرائیویٹ) لمیٹڈ کی جانب سے نامزد کردہ افراد؛

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کی شق (و) تا (ط) کے ضمن میں صراحت کردہ بورڈ آف گورنرز کے ارکان کی تعداد اس شرط کے تحت بذریعہ

قوانین موضوعہ بورڈ آف گورنرز بڑھا سکے گا کہ بورڈ آف گورنرز کی کل رکنیت اکیس سے تجاوز نہ کرے، جس میں زیادہ سے زیادہ پانچ انسٹیٹیوٹ

اساتذہ ہوں، اور یہ اضافہ ذیلی دفعہ (۱) میں صراحت کردہ مختلف کمیٹیوں سے ممکنہ حد تک متوازن کیا جائے۔

(۳) بورڈ آف گورنرز میں تمام تقرریاں چانسلسر کرے گا۔ ذیلی دفعہ (۱) کی شقات (و) تا (ز) میں مصرحہ افراد کی تقرریاں نمائندہ کمیٹی کی جانب سے سفارش کردہ ہر ایک خالی اسامی کے لیے تین ناموں کے پینل میں سے کی جائیں گی، جس کی دفعہ ۲۸ کے لحاظ سے تشکیل ہوئی ہو اور ایسا طریق کار کے مطابق ہوگا، جیسا کہ مقررہ ہو۔

مگر شرط یہ ہے کہ خواتین کو معیار یا قابلیت پر سمجھوتہ کئے بغیر بورڈ آف گورنرز میں منصفانہ نمائندگی دینے کی کوشش کی جائیں گی۔ مزید شرط یہ ہے کہ جہاں تک ذیلی دفعہ (۱) کی شق (ح) میں مصرحہ انسٹیٹیوٹ اساتذہ کا تعلق ہے، بورڈ آف گورنرز، انسٹیٹیوٹ اساتذہ کی مختلف کیٹگریوں کی جانب سے رائے دہی کے لیے انتخابات کی بنیاد پر تقرر کے لیے طریق کار وضع کرے گا مگر یہ بھی شرط ہے کہ بورڈ آف گورنرز متبادل طور پر تجویز کرے کہ بورڈ آف گورنرز میں انسٹیٹیوٹ اساتذہ کا تقرر بھی ذیلی دفعہ (۱) کی شقات (و) تا (ز) میں صراحت کردہ افراد کے لیے ذیلی دفعہ ہذا کے ذریعے فراہم کردہ طریق کار سے ہوگا۔

(۴) بورڈ آف گورنرز کے ارکان، ارکان بلحاظ عہدہ کے علاوہ، تین سال کے لیے عہدے پر مامور ہوں گے۔ پہلے بورڈ آف گورنرز کے ایک تہائی ارکان، ارکان بلحاظ عہدہ کے علاوہ، جن کا قرضہ اندازی کے ذریعے انتخاب ہوگا، چانسلسر کی جانب سے تاریخ تقرر سے ایک سال پورا ہونے پر عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ پہلے بورڈ آف گورنرز کے باقی ماندہ ارکان کا نصف، ارکان بلحاظ عہدہ کے علاوہ، جن کا قرضہ اندازی کے ذریعے انتخاب ہوگا، تاریخ تقرر سے دو سال کی مدت پوری ہونے پر عہدے سے سبکدوش ہوں گے اور ارکان بلحاظ عہدہ کے علاوہ، باقی ماندہ نصف، تیسرے سال کے اختتام پر عہدے سے سبکدوش ہوں گے۔

مگر شرط یہ ہے کہ رکن بلحاظ عہدہ کے علاوہ، کوئی فرد عہدے کی دو مسلسل میعادوں سے زائد کے لیے بورڈ آف گورنرز میں خدمات انجام نہیں دے سکتا۔

مزید شرط یہ ہے کہ بورڈ آف گورنرز میں ادارہ کے تقرریاں اساتذہ دو مسلسل میعادوں سے زائد خدمات سرانجام نہیں دے سکیں گے۔

(۵) بورڈ آف گورنرز کا ایک تقویمی سال میں کم از کم دو بار اجلاس ہوگا۔

(۶) بورڈ آف گورنرز میں ملازمت اعزازی بنیاد پر ہوگی۔ تاہم، اصل اخراجات کی باز ادائیگی کی جاسکتی ہے، جیسا کہ مقررہ ہو۔

(۷) رجسٹرار بورڈ آف گورنرز کا سیکرٹری ہوگا۔

(۸) چانسلسر کی غیر موجودگی میں بورڈ آف گورنرز کے اجلاسوں کی صدارت ایسا رکن کرے گا، جو کہ ادارہ یا حکومت کا ملازم نہ ہو،

جیسا کہ چانسلسر و قانون دان مقرر کرے۔ ایسے نامزد کردہ رکن بورڈ آف گورنرز کا کوئی نائب ہوگا۔

(۹) بجز اس کے کہ ایکٹ ہذا کے ذریعے کچھ اور مقررہ ہو، بورڈ آف گورنرز کے تمام فیصلے حاضر ارکان کی اکثریت کی رائے سے لیے

جائیں گے۔ اگر کسی معاملے پر ارکان کی رائے برابر منقسم ہو، اجلاس کی صدارت کرنے والا فرد حتمی ووٹ ڈالنے کا اہل ہوگا۔

(۱۰) بورڈ آف گورنرز کے اجلاس کا کورم اس کی رکنیت کا دو تہائی ہوگا، جس کی کس ایک شمار کی جائے گی۔

۲۲۔ بورڈ آف گورنرز کے اختیارات اور کارہائے منصبی۔ (۱) بورڈ آف گورنرز کو ادارے کی عمومی نگرانی کا اختیار ہوگا اور ادارے کے

تمام کارہائے منصبی کے حوالے سے وائس چانسلسر اور اتھارٹیز کو جو اب وہ ٹھہرا سکے گا۔ بورڈ آف گورنرز ادارے کے ایسے تمام اختیارات کا حامل ہوگا جو

کہ بذریعہ ایکٹ ہذا اتھارٹی یا افسر کو صراحتاً نہیں دیئے گئے اور تمام ایسے دیگر اختیارات جو ایکٹ ہذا میں صراحتاً مذکورہ نہیں اور اس کے کارہائے منصبی

کی انجام دہی کے لیے ضروری ہوں۔

(۲)

مذکورہ اختیارات کی عمومیت پر اثر انداز ہوئے بغیر بورڈ آگورنرز کو حسب ذیل اختیارات حاصل ہوں گے:-

- (الف) مجوزہ سالانہ لائحہ عمل، سالانہ اور ترمیم شدہ بجٹوں، سالانہ رپورٹ اور سالانہ کیفیت نامہ حساب کی منظوری دینا؛
- (ب) غیر منقولہ املاک کی فروخت اور خریداری یا حصول سمیت ادارے کی ملکیت، فنڈز اور سرمایہ کاریوں کے انتظام کے لیے پالیسی وضع، برقرار اور اس کی نگرانی کرنا؛
- (ج) ادارے کے تعلیمی پروگراموں کے معیار اور موزونیت کی نگرانی کرنا اور ادارے کے تعلیمی معاملات کا جائزہ لینا؛
- (د) ڈیز، پروفیسرز، ایسوسی ایٹ پروفیسرز اور ایسے دیگر سینئر فیصلی اور سینئر منتظمین کے تقرر کی منظوری دینا جیسا کہ مقررہ ہو؛
- (ه) تمام افسران، اساتذہ اور ادارے کے دیگر ملازمین کے تقرر کی شرائط و ضوابط کے لیے اسکیموں، ہدایات اور رہنما اصول قائم کرنا؛
- (و) ترویجی منصوبوں کی منظوری دینا؛
- (ز) ادارے کے مالیاتی وسائل کی ترقی کے منصوبوں کی منظوری دینا؛
- (ح) سینڈیکیٹ اور تعلیمی کونسل کی جانب سے مجوزہ قوانین موضوعہ اور ضوابط کے مسودوں کو زیر غور لانا اور جیسی صورت ہو، دفعات ۳۱ اور ۳۲ میں مصرحہ طریق کار سے ان پر کارروائی کرنا مگر شرط یہ ہے کہ بورڈ آف گورنرز اپنے از خود اقدام سے قانون موضوعہ یا ضابطہ وضع کر سکے گا اور جیسی صورت ہو سینڈیکیٹ یا تعلیمی کونسل کی ہدایت کے مطالبے کے بعد اس کی منظوری دے سکے گا؛
- (ط) اگر بورڈ آف گورنرز مطمئن ہو کہ کسی اتھارٹی یا افسر کی کارروائیاں ایکٹ ہذا، قوانین موضوعہ یا ضوابط کی تصریحات کے مطابق نہیں ہیں اس کی جانب سے اس اتھارٹی یا افسر کو طلب کرنے کے بعد کہ وہ وجوہات بتائے کہ ان کارروائیوں کو کیوں کالعدم قرار نہ دیا جائے، مذکورہ کارروائیوں کو تحریری حکم کے ذریعے منسوخ کرنا؛
- (ی) ایکٹ ہذا کی تصریحات کے مطابق بورڈ آف گورنرز کے کسی رکن کو اس کے عہدے سے ہٹانے کے لئے چانسلر کو سفارش کرنا؛
- (ک) ایکٹ ہذا کی تصریحات کے مطابق اراکین بلحاظ عہدہ کے علاوہ سینڈیکیٹ کے اراکین کی تفریق کرنا؛
- (ل) ایکٹ ہذا کی تصریحات کے مطابق اراکین بلحاظ عہدہ کے علاوہ تعلیمی کونسل کے اراکین کی تفریق کرنا؛
- (م) مجوزہ قیود و شرائط کے مطابق اعزازی پروفیسروں کا تقرر کرنا؛
- (ن) کسی شخص کی کسی اتھارٹی سے رکنیت ختم کرنا، اگر وہ شخص:
- (i) ذہنی توازن کھو بیٹھا ہو؛ یا
- (ii) اس اتھارٹی کے رکن کی حیثیت سے فرائض سرانجام دینے کے قابل نہ رہا ہو؛ یا
- (iii) اخلاقی گراؤٹ سے متعلق کسی جرم میں عدالت سے سزا یافتہ ہو جائے؛ اور

(س) ادارے کی عمومی مہر کی ہیئت کا تعین کرنا، اسے تحويل میں رکھنے کے لئے احکام وضع کرنا اور اس کے استعمال کو منضبط کرنا۔

(۳) بورڈ آف گورنرز، ایکٹ ہذا کی تصریحات کے تحت، ادارے کے مرکزی کیمپس میں کسی اتھارٹی، افسر یا ملازم کو تمام یا کوئی بھی اختیارات و فرائض اس ادارے کے اضافی کیمپس میں کسی اتھارٹی، کمیٹی، افسر یا ملازم کو تفویض کر سکتا ہے تاکہ وہ اس اضافی کیمپس سے متعلق اختیارات استعمال کرے اور فرائض سرانجام دے، اور اس مقصد کے لئے بورڈ آف گورنرز اضافی کیمپس میں نئی اسامیاں اور عہدے تخلیق کر سکتا ہے۔

۲۳۔ معائنہ۔ بورڈ آف گورنرز ادارہ سے منسلک کسی معاملہ میں مجوزہ قیود و طریق ہائے کار کے مطابق معائنہ کروائے گا۔

۲۴۔ سیٹیکٹ۔ (۱) ادارے کی سیٹیکٹ حسب ذیل پر مشتمل ہوگی:-

(الف) وائس چانسلر جو کہ اس کا چیئر پرسن ہوگا؛

(ب) پرو۔ وائس چانسلر؛

(ج) ادارے کی فیکلٹی کے ڈین؛

(د) مختلف شعبوں سے تین پروفیسر، جو بورڈ آف گورنرز کے اراکین نہ ہوں، کو بورڈ آف گورنرز کی جانب سے

مقرر کردہ طریقہ کار کے مطابق ادارہ کے اساتذہ منتخب کریں گے؛

(و) ذیلی کالجوں ریوٹوں کے پرنسپلز؛

(و) رجسٹرار؛

(ز) ڈائریکٹر (کیو ای سی)؛

(ح) ڈائریکٹر (او آر آئی سی)؛

(ط) ڈائریکٹر (پی اینڈ ڈی)؛

(ی) خزانچی؛ اور

(ک) کنٹرولر امتحانات؛

(۲) سیٹیکٹ کے اراکین، ماسوائے اراکین بلحاظ عہدہ، تین سال تک اپنے عہدے پر فائز رہیں گے۔

(۳) جہاں تک ذیلی دفعہ (۱) کی شق (د) میں مذکور تین پروفیسروں کا تعلق ہے، بورڈ آف گورنرز انتخابات کے متبادل کے طور پر

دفعہ ۲۸ کے تحت قائم کردہ نمائندہ کمیٹی کی جانب سے ناموں کا پینل تجویز کرنے کی بابت طریق کار وضع کرے گا۔ وائس چانسلر کی سفارش پر نمائندہ کمیٹی کے تجویز کردہ افراد کی تقرری بورڈ آف گورنرز کی جانب سے کی جائے گی۔

(۴) سیٹیکٹ کے اجلاس کا کورم کل اراکین کا نصف ہوگا، کس کو ایک شمار کیا جائے گا۔

(۵) سیٹیکٹ کا اجلاس سال کی ہر سہ ماہی میں کم از کم ایک بار منعقد ہوگا۔

۲۵۔ سیٹیکٹ کے اختیارات و فرائض۔ (۱) سیٹیکٹ ادارے کی مجلس منتظمہ ہوگی اور ایکٹ ہذا کی تصریحات اور قوانین

موضوعہ کے تحت ادارے کے امور اور انتظامات کی عمومی نگرانی کرے گی۔

(۲) مذکورہ بالا اختیارات کی عمومیت پر اثر انداز ہوئے بغیر، اور اس ایکٹ کی تصریحات، قوانین موضوعہ اور بورڈ آف گورنرز کی ہدایات کے مطابق، سینڈیکٹ کو حسب ذیل اختیارات حاصل ہوں گے:-

(الف) سالانہ رپورٹ و سالانہ اور نظر ثانی شدہ بجٹ کے تخمینہ جات پر غور کرنا اور انہیں بورڈ آف گورنرز کے سامنے پیش کرنا؛

(ب) ادارہ کی جانب سے منقولہ املاک کو منتقل کرنا اور اس کی منتقلی کو قبول کرنا؛

(ج) ادارہ کی جانب سے معاہدات کرنا، انہیں تبدیل کرنا، ان پر عمل درآمد کرنا اور انہیں منسوخ کرنا؛

(د) ادارہ کی جانب سے وصول کردہ اور صرف شدہ تمام رقوم اور ادارے کے اثاثہ جات اور واجبات کے لئے مناسب کھاتے تیار کرنا؛

(ه) ٹرسٹ ایکٹ، ۱۸۸۲ء (ایکٹ نمبر ۲ بابت ۱۸۸۲ء) کی دفعہ ۲۰ میں مذکور کسی تمسکات میں کسی غیر اطلاق شدہ آمدن سمیت ادارے سے متعلقہ کسی رقم سے سرمایہ کاری کرنا، یا غیر منقولہ جائیداد کی خریداری میں لگانا یا ایسے دیگر انداز سے سرمایہ کاری کرنا جو مقرر کئے جائیں جیسے ایسی سرمایہ کاریوں میں تبدیلی کا اختیار؛

(د) ادارہ کو منتقل کردہ کوئی املاک، گرانٹس، وصیتیں، ٹرسٹ، ہبہ جات، عطیہ جات، اوقاف اور دیگر حصہ جات وصول کرنا اور ان کا انتظام و انصرام کرنا؛

(ز) ادارہ کو مخصوص اغراض کے لئے دیئے گئے کسی بھی فنڈ کا انتظام کرنا؛

(ح) ادارہ کو فرائض منصبی کی بجا آوری کے لئے عمارتیں، کتب خانے، احاطے فرنیچر، آلات اور ساز و سامان فراہم کرنا؛

(ط) طالب علموں کے لئے رہائش گاہیں اور ہاسٹل قائم کرنا اور ان کا انتظام کرنا یا ان کی منظوری یا لائسنس دینا؛

(ی) تعلیمی اداروں کو ادارہ ہذا کی مراعات دینے اور مذکورہ مراعات واپس لینے کی بابت بورڈ آف گورنرز کو سفارش کرنا؛

(ک) سکولز اور شعبہ جات کے معائنے کے لئے انتظام کرنا؛

(ل) پروفیسر شپ، ایسوسی ایٹ پروفیسر شپ، اسٹنٹ پروفیسر شپ، لیکچرار شپ اور دیگر تدریسی اسامیاں پیدا کرنا یا مذکورہ اسامیوں کو معطل یا ختم کرنا؛

(م) ایسی انتظامی یا دیگر اسامیاں جو کہ ضروری ہوں تخلیق کرنا یا معطل یا ختم کرنا؛

(ن) ادارہ کے افسران، اساتذہ اور دیگر ملازمین کے فرائض منصبی کا تعین کرنا؛

(س) بورڈ آف گورنرز کو ان معاملات کی رپورٹ دینا جن کے متعلق اس کو رپورٹ کرنے کا کہا گیا ہو؛

(ع) اس ایکٹ کے احکامات کے مطابق مختلف ہئیت ہائے مجاز کے اراکین کا تقرر کرنا؛

(ف) بورڈ آف گورنرز میں پیش کرنے کے لئے قوانین موضوعہ کے مسودات تجویز کرنا؛

(ص) ادارہ کے طلباء کے کردار اور نظم و ضبط کو منضبط کرنا؛

(ق) ادارہ کے اچھے عمومی انتظام کے لئے ضروری کارروائی کرنا اور ان اختیارات جیسا کہ ضروری ہو کو ختم کرنا؛

(ر) کسی بھی ہئیت ہائے مجاز، افسر یا کمیٹی کو اپنا کوئی اختیار تفویض کرنا؛ اور

(ش) ایسے دوسرے کارہائے منصبی انجام دینا جو اس ایکٹ کے احکامات کے ذریعے اسے تفویض کئے گئے ہوں یا قوانین موضوعہ کے ذریعے تفویض کئے جائیں۔

۲۶۔ تعلیمی کونسل۔ (۱) ادارہ کی تعلیمی کونسل حسب ذیل پر مشتمل ہوگی۔

- (الف) وائس چانسلر جو اس کا چیئر پرسن ہوگا؛
- (ب) پرو وائس چانسلر (ایڈمن و فنانس)
- (ج) پرو وائس چانسلر (اکیڈمک و ریسرچ)
- (د) فیکلٹی ڈینز اور شعبوں کے ایسے سربراہ جیسا کہ مقرر کیا جائے؛
- (ه) شعبہ جات، انسٹیٹیوٹس اور ذیلی اسکولز کی نمائندگی کرنے والے پانچ اراکین کا انتخاب بورڈ آف گورنرز کی جانب سے مقرر کردہ طریق کار کے مطابق کیا جائے گا؛
- (و) پانچ پروفیسرز بشمول اعزازی پروفیسرز؛
- (ز) رجسٹرار؛
- (ح) ڈائریکٹر (کیو ای سی)؛
- (ط) ڈائریکٹر (او آر آئی سی)؛
- (ی) کنٹرولر امتحانات؛ اور
- (ک) لائبریرین۔

(۲) بورڈ آف گورنرز، وائس چانسلر کی سفارش پر تعلیمی کونسل، ماسوائے رکن بلحاظ عہدہ اور منتخب اراکین کی تقرری کرے گا؛ مگر شرط یہ ہے کہ پانچ پروفیسرز اور شعبہ جات، انسٹیٹیوٹس اور ذیلی کالجوں کے نمائندہ اراکین کے ضمن میں بورڈ آف گورنرز متبادل انتخاب کے طور پر دفعہ ۲۸ کے ضمن میں قائم کی گئی نمائندہ کمیٹی کی جانب سے ناموں کا بیٹل تجویز کرنے کے لئے طریقہ کار تجویز کر سکتا ہے۔ نمائندہ کمیٹی کی جانب سے تجویز کردہ افراد کی تقرری وائس چانسلر کی سفارش پر کی جائے گی۔

(۳) تعلیمی کونسل کے اراکین کے عہدے کی مدت تین سال ہوگی۔

(۴) تعلیمی کونسل ہر سہ ماہی میں کم از کم ایک بار اجلاس کا انعقاد کرے گی۔

(۵) تعلیمی کونسل کے اجلاس کا کورم اس کے اراکین کی کل تعداد کا نصف ہوگا، کسر بطور ایک شمار ہوگی۔

۲۷۔ تعلیمی کونسل کے اختیارات اور کارہائے منصبی۔ (۱) تعلیمی کونسل انسٹیٹیوٹ کا بنیادی تعلیمی ادارہ ہوگی اور ایکٹ ہذا کی

تصریحات اور قوانین موضوعہ سے مشروط، ایسے ہدایات، تحقیق اور امتحانات کے باقاعدہ معیارات وضع کرنے اور انسٹیٹیوٹ اور اسکولز کی تعلیمی سرگرمیوں کو منضبط بنانے اور فروغ دینے کی مجاز ہوگی۔

(۲) مذکورہ بالا اختیارات کی عمومیت سے بلا امتیاز اور ایکٹ ہذا اور قوانین موضوعہ سے مشروط، تعلیمی کونسل کو اختیارات حاصل

ہوں گے:

(الف) تعلیمی پروگراموں کے معیار سے متعلق پالیسیوں و طریق ہائے کار کی منظوری دینا؛

- (ب) تعلیمی پروگراموں کی منظوری دینا؛
- (ج) داخلہ، اخراج، سزاؤں، امتحانات اور اسناد سمیت طلباء کے امور ہائے کار کی بابت پالیسیوں اور طریق ہائے کار کی منظوری دینا؛
- (د) تدریس اور تحقیق کے معیار کو یقینی بنانے والی پالیسیوں اور طریق ہائے کار کی منظوری دینا؛
- (ه) فیکلٹیز، تدریسی شعبوں اور بورڈ آف اسٹڈیز کی تشکیل و انتظام کے لئے سنڈیکیٹ اسکیموں کی بابت تجویز دینا؛
- (و) متعلقہ حکام سے ناموں کے چینلز موصول ہونے کے بعد انسٹیٹیوٹ کے تمام امتحانات کے لئے ممتحن اور پیپر بنانے والوں کی تقرری کرنا؛
- (ز) تمام سطح پر انسٹیٹیوٹ اساتذہ کی مسلسل پیشہ ورانہ ترقی کے لئے پروگرام تشکیل دینا؛
- (ح) دیگر یونیورسٹیوں یا امتحان کا انعقاد کرنے والے ادارے کے امتحانات کو ادارہ کی متعلقہ امتحانات کے مساوی تسلیم کرنا؛

(ط) طالب علمی اسکالرشپس، نمائش، تمغوں اور انعامات کے ایوارڈ کو منضبط کرنا؛

(ی) بورڈ آف گورنرز کو پیش کرنے کے لئے ضوابط وضع کرنا؛

(ک) ادارہ کی تعلیمی کارکردگی سے متعلق سالانہ رپورٹ تیار کرنا؛ اور

(ل) ایسے دیگر کارہائے منصبی انجام دینا جو ضوابط کے ذریعے تجویز کئے گئے ہوں۔

۲۸۔ نمائندہ کمیٹیاں۔ (۱) بورڈ آف گورنرز کی جانب سے قوانین موضوعہ کے ذریعے نمائندہ کمیٹی تشکیل دی جائے گی جس کا مقصد

دفعہ ۲۱ کی تصریحات کی رو سے بورڈ آف گورنرز کے رکن کے طور پر افراد کی تقرری کی سفارش کرنا ہوگا۔

(۲) بورڈ آف گورنرز کی جانب سے قوانین موضوعہ کے ذریعے ایک نمائندہ کمیٹی تشکیل دی جائے گی جس کا مقصد دفعہ ۲۵ اور ۲۷

تصریحات کی روشنی میں سنڈیکیٹ اور تعلیمی کونسل کے لئے افراد کی تقرری کی سفارش کرنا ہوگا۔

(۳) بورڈ آف گورنرز میں کی تقرری کے لئے نمائندہ کمیٹی کے ارکان حسب ذیل پر مشتمل ہوں گے:-

(الف) بورڈ آف گورنرز کے تین اراکین جو ادارہ کے اساتذہ نہ ہوں؛

(ب) ادارہ کے اساتذہ کی جانب سے مقررہ انداز میں اپنے درمیان سے نامزد کردہ دو افراد؛

(ج) تعلیمی کمیونٹی سے ایک فرد جو کہ پروفیسر یا کالج اسکول کے پرنسپل کی سطح پر ادارے کا ملازم نہ ہو، کو انسٹیٹیوٹ

اساتذہ کی جانب سے مقررہ طریق کار کے تحت نامزد کیا جائے گا؛ اور

(د) انتظامیہ، خدمت خلق، ترقیاتی کام، قانون یا اکاؤنٹنسی میں تجربہ کے حامل ایک ممتاز شہری کو بورڈ آف گورنرز کی

جانب سے نامزد کیا جائے گا۔

(۴) انتظامی کمیٹی اور تعلیمی کونسل میں تقرری کے لئے نمائندہ کمیٹی حسب ذیل پر مشتمل ہوگی:

(الف) بورڈ آف گورنرز کے دو اراکین جو انسٹیٹیوٹ اساتذہ نہ ہوں؛ نیز

(ب) ادارہ کے اساتذہ کی جانب سے انہی میں سے مقرر کردہ طریقے سے نامزد کردہ تین افراد؛

(۵) نمائندہ کمیٹیوں کی مدت تین سال ہوگی:

مگر شرط یہ ہے کہ کوئی رکن بھی مسلسل دو میعادوں سے زائد خدمات انجام نہیں دے گا۔

(۶) نمائندہ کمیٹیوں کے طریق ہائے کار ایسے ہوں گے جیسا کہ مقرر کئے جائیں۔

(۷) انسٹیٹیوٹ کی دیگر اتھارٹیز کی جانب سے قائم کی گئی ایسی دیگر نمائندہ کمیٹیاں بھی ہوں گی جیسا کہ مختلف اتھارٹیز اور انسٹیٹیوٹ

کے دیگر اداروں میں افراد کی تقرری کی سفارش کے لئے موزوں خیال کیا جائے۔

۲۹۔ بعض اتھارٹیوں کی جانب سے کمیٹیوں کی تقرری۔ (۱) بورڈ آف گورنرز، سنڈیکیٹ، تعلیمی کونسل اور دیگر اتھارٹیز و قانوناً ایسی

قائمہ، خصوصی یا مشاورتی کمیٹیوں کی تقرری کر سکتی ہیں جو وہ مناسب تصور کریں اور مذکورہ کمیٹیوں میں ایسے افراد رکھ سکتی ہیں جو کمیٹیاں تقرر کرنے والی اتھارٹیوں کے اراکین نہ ہوں۔

(۲) اتھارٹیز کا دستور، کارہائے منصبی اور اختیارات جن کے لئے ایکٹ ہذا میں کوئی مخصوص تصریح وضع نہیں کی گئی ہے، مجوزہ

قوانین موضوعہ یا ضوابط کے مطابق ہوں گے۔

باب ۵

قوانین موضوعہ، ضوابط و قواعد

۳۰۔ قوانین موضوعہ۔ (۱) ایکٹ ہذا کے تحت حسب ذیل تمام یا کوئی معاملات کو منضبط یا تجویز کرنے کے لئے قوانین

موضوعہ وضع کئے جائیں گے:-

(الف) مواد اور طریقہ کار جس سے وائس چانسلر کی جانب سے بورڈ آف گورنرز کو پیش کیے جانے کے لیے سالانہ رپورٹ تیار کی جائے گی؛

(ب) ادارہ کی فیس اور دیگر اخراجات؛

(ج) ادارہ کے ملازمین کے لیے پنشن، انشورنس، گریجویٹی، پروویڈنٹ فنڈ اور بینویلنٹ فنڈ کی تشکیل؛

(د) افسران، اساتذہ اور ادارہ کے دیگر ملازمین کی تنخواہ کا اسکیل اور دیگر شرائط و قیود؛

(ه) رجسٹرڈ گریجویٹس کار جسٹر مرتب کرنا؛

(و) ادارہ کے استحقاقات تعلیمی اداروں کو دینا اور ایسے استحقاقات کو واپس لینا؛

(ز) فیکلٹی، شعبہ جات، انسٹیٹیوٹ، سکولز اور دیگر نصابی ڈویژنز کا قیام؛

(ح) افسران اور اساتذہ کے اختیارات و فرائض منصبی؛

(ط) تحقیق و مشاورتی خدمات کے اغراض کے لیے کسی دیگر اداروں یا کسی سرکاری اداروں کے ساتھ معاہدات کرنے کے

لیے ادارے کے لیے شرائط؛

(ی) اعزازی پروفیسروں کی تقرری اور اعزازی ڈگری عطا کرنے کی شرائط؛

(ک) ادارہ کے ملازمین کی کارکردگی و نظم و ضبط؛

(ل) ایکٹ ہذا کی شرائط کے تحت فرائض منصبی کی انجام دہی کے لیے نمائندہ کمیٹیوں کی جانب سے بیرونی کیے جانے کے لیے آئین و طریقہ کار؛

(م) وائس چانسلر کی تقرری کے لیے تحقیقی کمیٹی کی جانب سے بیرونی کیے جانے کا آئین و طریقہ کار؛

(ن) ادارہ کی اتھارٹیز کا دستور، فرائض منصبی و اختیارات؛ اور

(س) جملہ دیگر معاملات جو اس ایکٹ یا قوانین موضوعہ کے ذریعے تجویز یا منضبط کیے جائیں گے۔

(۲) سینڈ کیٹ قوانین موضوعہ کا مسودہ بورڈ آف گورنرز کو تجویز کرے گا جو کہ بورڈ آف گورنرز ایسی ترامیم کے ساتھ منظور کر

سکتا ہے جیسا کہ مناسب تصور کرے یا سینڈ کیٹ کو مجوزہ مسودہ کو دوبارہ زیر غور لانے، جیسی بھی صورت ہو، کے لیے واپس بھیج سکتا ہے۔

مگر شرط یہ ہے کہ ذیلی دفعہ (۱) کی شق (الف) اور (ط) میں بیان کردہ کسی معاملات سے متعلق قوانین موضوعہ کو سینڈ کیٹ کی آراء لینے کے بعد بورڈ آف گورنرز کی جانب سے پیش اور منظور کیا جائے گا۔

مزید شرط یہ ہے کہ بورڈ آف گورنرز اپنے دائرہ اختیارات میں آنے والے کسی معاملے کے حوالے سے قانون موضوعہ یا ایکٹ ہذا کی

شرائط میں تشکیل کیے گئے کسی قانون موضوعہ کی تشکیل کی ابتداء کر سکتا ہے اور سینڈ کیٹ کی آراء جاننے کے بعد ایسے قانون موضوعہ کو منظور کر سکتا ہے۔

۳۱۔ ضوابط۔ (۱) تعلیمی کونسل، ایکٹ ہذا اور قوانین موضوعہ کی تصریحات کے مطابق ضوابط، ڈگری کے لیے مطالعہ کے کورسز، ادارہ کے ڈپلومہ اور سرٹیفیکیشن تشکیل کر سکتی ہے؛

(الف) دفعہ ۶ کی ذیلی دفعہ (۱) کے حوالے سے دیئے گئے طریقے سے تعلیم کو منظم و ضبط کیا جائے گا؛

(ب) ادارہ میں طالب علموں کا داخلہ اور اخراج؛

(ج) شرائط جس کے تحت طالب علم کورسز میں داخلہ اور ادارہ کے امتحانات دے سکیں گے اور ڈگریوں، ڈپلوموں اور

سرٹیفیکیشن کے اہل ہو سکیں گے؛

(د) امتحانات کا انعقاد؛

(ه) شرائط جن کے تحت کوئی فرد ڈگری حاصل کرنے کے لیے آزادانہ تحقیق کر سکتا ہے؛

(و) فیلوشپس، اسکالرشپس، نمائشوں، میڈلز اور انعامات کا ادارہ؛

(ز) لائبریری کا استعمال؛

(ح) فیکلٹی، شعبہ جات اور مطالعات کا بورڈ کی تشکیل؛ اور

(ط) جملہ دیگر معاملات جو ایکٹ ہذا یا قوانین موضوعہ کے ذریعے ضوابط کی رو سے تجویز کیے جائیں یا جاسکتے ہیں۔

مگر شرط یہ ہے کہ ذیلی شق (د) اور (ح) میں رکھے گئے معاملات کے ضمن یا متعلق قواعد کو سینڈ کیٹ کی پیشگی

منظوری کے بغیر بورڈ آف گورنرز کو نہیں بھیجا جائے گا۔

(۲) ضوابط اکیڈمک کونسل کی جانب سے تجویز کیے جائیں گے اور بورڈ آف گورنرز کو بھیجے جائیں گے جو کہ انہیں منظور یا منظوری کو روک یا دوبارہ زیر غور کے لیے اکیڈمک کونسل کو واپس بھیج سکتے ہیں۔ اکیڈمک کونسل کی جانب سے مجوزہ قواعد موثر نہیں ہونگے تا وقتیکہ بورڈ آف گورنرز کی منظوری موصول ہو جائے۔”

۳۲۔ قوانین موضوعہ و ضوابط میں ترمیم و تفسیح۔ قوانین و ضوابط میں اضافہ کرنے، ترمیم کرنے یا منسوخ کرنے کے لیے طریقہ کار ویسا ہی ہو گا جو کہ قوانین موضوعہ و ضوابط کی تشکیل یا تیار کرنے کے لیے بالترتیب تجویز کیا گیا ہو۔

۳۳۔ قواعد۔ (۱) اٹھارہ یا انسٹی ٹیوٹ کے دیگر ہیئت ہائے ایکٹ، قوانین موضوعہ و ضوابط کے تسلسل میں ادارہ کے معاملات سے متعلق کسی ایسے معاملے کو منضبط کرنے کے لیے قواعد وضع کر سکتے ہیں جو ایکٹ ہذا کے ذریعے فراہم نہیں کیے گئے ہوں یا قوانین یا ضوابط کے ذریعے منضبط کیے جانے درکار نہ ہو جس میں کارروائی کے انعقاد کو منضبط کرنے اور اجلاسوں کے وقت و مقام اور متعلقہ معاملات کے قواعد شامل ہیں۔ (۲) سینڈ کیٹ کی منظوری سے قواعد موثر ہو جائیں گے۔

باب ۶

ادارہ کانسٹنٹ

۳۴۔ ادارہ کانسٹنٹ۔ ادارہ کا ایک فنڈ ہو گا جس میں فیسوں، وصولیوں، عطیات، ٹرسٹ، میراث، اوقاف، چندے، گرانٹس اور جملہ دیگر ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدن کو جمع کیا جائے گا۔

۳۵۔ آڈٹس و اکاؤنٹس۔ (۱) ادارہ کے کھاتوں کو ایسے طریقے اور ایسے طرز سے سنبھالا جائے گا جیسا کہ تجویز کیا گیا ہو۔ (۲) تدریسی شعبہ جات، ذیلی کالج، ادارہ اور قوانین موضوعہ کی رو سے سینڈ کیٹ کی جانب سے نامزد جملہ دیگر ادارے انسٹی ٹیوٹ کے خود مختار مالیاتی مراکز ہوں گے جو ہر لاگتی مرکز کے سربراہ کو ان کو مختص کردہ بجٹ میں سے خرچ کرنے کی اجازت دینے کے اختیارات تفویض کیے گئے ہیں۔

مگر شرط یہ ہے کہ لاگتی مرکز کے سربراہ کی جانب سے اخراجات کی ایک مد سے کسی دوسری مد میں قوانین موضوعہ کے مطابق اور اس کے تحت مقررہ حد تک باز مد بندی کی جاسکتی ہے۔

(۳) کونسلٹنسی، تحقیق یا دیگر کسی خدمات کی فراہمی کے ذریعے ادارے کے کسی تدریسی شعبے، منسلک کالج یا دیگر یونٹ کی جانب سے پیدا ہونے والے جملہ فنڈز قانون موضوعہ کے ذریعے مقررہ طریق کار اور حد تک اور ریٹرز کی کٹوتی کے بعد بصورت دیگر کی گئی میزانیاتی تخصیص کو ضرر پہنچائے بغیر تدریسی شعبے، منسلک اسکول یا دیگر یونٹ کو ان کی ترقی کے لئے فراہم کئے جائیں گے۔ ایسے پیدا ہونے والے فنڈز کے کسی حصے کو قانون موضوعہ کے ذریعے مجوزہ طریقہ کار اور مقرر کردہ حد تک متعلقہ کونسلٹنسی، تحقیق یا خدمت کے صلے میں ادارہ کے اساتذہ یا محققین میں بانٹا جا سکتا ہے۔

(۴) ادارہ کے فنڈز سے کوئی اخراجات نہیں کیے جائیں گے تا وقتیکہ متعلقہ قوانین موضوعہ کے مطابق متعلقہ لاگتی مرکز کے سربراہ کی جانب سے اس کی ادائیگیوں کے لیے کوئی بل جاری کیا جائے اور خزانچی اس بات کی تصدیق کرے کہ ادائیگی لاگتی مرکز کے منظور کردہ بجٹ میں سے کی گئی ہے جو کہ لاگتی مرکز کے لئے دستیاب باز مد بندی سے متعلق اتھارٹی سے مشروط ہے۔

(۵) ادارے کی مالیات کے اندرونی آڈٹ کے لئے قانون وضع کیا جائے گا۔

(۶) تقریر کردہ کسی اڈیٹر کی جانب سے آڈٹ کی مقتضیات پر اثر انداز ہوئے بغیر، ادارہ کے اکاؤنٹس کے سالانہ آڈٹ شدہ گوشوارہ کسی مشہور فرم آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس سے عمومی طور پر منظور کردہ اکاؤنٹنگ اصولوں (جی اے اے پی) کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوئے تیار کیا جائے گا اور خزانچی کی جانب سے دستخط کئے جائیں گے۔

(۷) آڈیٹر کے اعتراضات، اگر کوئی ہوں، کو خزانچی کی جانب سے پیش کی گئی وضاحتوں کے ساتھ سینڈیکٹ کی جانب سے زیر غور لایا جائے گا اور مالی سال کے اختتام کے چھ ماہ کے اندر بورڈ آف گورنرز کے سامنے رکھا جائے گا۔

باب ۷

عمومی تصریحات

۳۶۔ اظہار وجوہ کا موقع۔ بجز اس کے کہ قانون میں کچھ اور مذکور ہو، کسی بھی افسر، استاد یا مستقل عہدے پر فائز ادارے کے دیگر ملازم کی عہدے میں تنزلی نہیں کی جائے گی، یا متعلقہ شخص کے کسی فعل یا کوتاہی کی بنیاد پر ہٹایا یا جبری طور پر ملازمت سے ریٹائر نہیں کیا جائے گا، جب تک کہ اسے مجوزہ کارروائی کے خلاف اظہار وجوہ کا مناسب موقع نہ دیا گیا ہو۔

۳۷۔ سٹرکٹ اور بورڈ آف گورنرز سے اپیل کرنا۔ کسی افسر (ماسوائے وائس چانسلر)، استاد یا ادارے کے کسی دیگر ملازم کو سزا دینے یا اس کے مفاد کے برخلاف اس کی ملازمت کی مقررہ شرائط یا ضوابط میں رد و بدل کرنے یا اس کی تشریح کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہو، اور یہ حکم وائس چانسلر کے علاوہ ادارے کے کسی افسر یا استاد کی طرف سے جاری کیا گیا ہو، تو اسے اس کے خلاف بورڈ آف گورنرز میں اپیل کرنے کا حق حاصل ہوگا۔

۳۸۔ ادارے کی ملازمت۔ (۱) قوانین موضوعہ کے ذریعے مقرر کردہ ملازمت کی شرائط و ضوابط کے مطابق، ادارے کی جانب سے بھرتی کردہ تمام افراد ادارے میں ملازم ہوں گے۔

(۲) کوئی افسر، استاد، یا ادارے کا دیگر ملازم اس عمر یا مدت ملازمت پر ریٹائر ہو گا جیسا کہ مقرر کیا جائے۔

۳۹۔ فوائد و انشورنس۔ (۱) ادارہ اپنے افسران اساتذہ و دیگر ملازمین کی بہتری کے لئے جیسا کہ مقرر کیا جائے، ملازمت کے بعد کے فوائد کے ساتھ ساتھ ملازمت میں رہتے ہوئے صحت اور لائف انشورنس کی فراہمی کے لئے اسکیمیں تشکیل دے گا۔

۴۰۔ اتھارٹی کے ارکان کی مدت ملازمت کا آغاز۔ (۱) جب کسی نئی تشکیل شدہ اتھارٹی کا کوئی رکن منتخب، مقرر یا نامزد کیا جاتا ہے، تو اس ایکٹ کے تحت اس کے عہدے کی معیاد اس تاریخ سے شروع ہوگی جو مقرر کی جائے۔

(۲) کسی رکن کی جانب سے کوئی دوسری ذمہ داری قبول کرنے یا ایسی کسی دیگر وجہ سے ادارے سے کم از کم چھ ماہ کی مدت تک غیر حاضر رہنے کی صورت میں، یہ خیال کیا جائے گا کہ اس نے استعفیٰ دے دیا ہے اور اپنی نشست خالی کر دی ہے۔

۴۱۔ اتھارٹیز میں ہنگامی اسامیوں کو پُر کرنا۔ کسی اتھارٹی کے اراکین میں کسی ہنگامی اسامی کو، جتنی جلدی ممکن ہو، اسی طریقے سے اور اس شخص یا اتھارٹی کے ذریعے پُر کیا جائے گا جس نے اس رکن کو مقرر کیا تھا اور جس کی جگہ خالی ہوئی ہے اور اس اسامی پر مقرر کردہ شخص بقایا مدت کے لئے ایسی اتھارٹی کا رکن ہو گا جس رکن کی جگہ وہ پُر کرتا ہے۔

۴۲۔ اتھارٹیز کی تشکیل میں خامیاں۔ جہاں کہیں کسی خاص دفتر کو ختم کرنے یا انسٹیٹیوٹ سے باہر کسی تنظیم، ادارے یا دیگر ہیئت کو ختم کرنے یا اسے تحلیل کرنے یا کسی دیگر ملتی جلتی وجہ کی بنا پر ایکٹ ہذا، قوانین موضوعہ یا قواعد کے تحت تشکیل دی گئی کسی اتھارٹی میں کوئی خامی ہوگی تو ایسی خامی کو اس طریقے سے ختم کیا جائے گا جیسا کہ بورڈ آف گورنرز ہدایت کرے۔

۳۳۔ خالی اسمیوں کی بنیاد پر اٹھارہ فیصد کی کارروائیاں منسوخ نہیں ہوں گی۔ کسی اٹھارہ فیصد کے کسی عمل، قرارداد یا فیصلے کو یہ عمل سرانجام دینے والی، قرارداد منظور کرنے والی یا فیصلہ کرنے والی اٹھارہ فیصد میں کوئی اسمی خالی ہونے یا اٹھارہ فیصد کے کسی حاضر یا غیر حاضر حقیقی رکن کے انتخاب، تقرری یا نامزدگی کی تفسیح یا قابلیت کے فقدان کی وجہ سے منسوخ نہیں کیا جائے گا۔

۳۴۔ اجرائی قوانین موضوعہ اور ضوابط۔ باوجود اس امر کے کہ ایک ہذا میں شامل کوئی امر اس کے منافی ہو، صدر پاکستان ابتدائی قوانین موضوعہ اور ضوابط کا نفاذ کریں گے جو کہ دفعہ ۳۰ اور ۳۱ کے تحت وضع کردہ قوانین موضوعہ اور ضوابط منظور ہوں گے اور یہ تب تک نافذ العمل رہیں گے جب تک کہ ان میں ترمیم نہیں کر دی جاتی یا ان کو تبدیل نہیں کر دیا جاتا یا اس وقت تک جب تک کہ ایک ہذا کی تصریحات کی روشنی میں نئے قوانین موضوعہ اور ضوابط کو وضع نہیں کر لیا جاتا۔

۳۵۔ ازالہ مشکلات۔ (۱) اگر ایک ہذا کی تصریح کی تشریح کا سوال پیدا ہوتا ہے تو اسے چانسلر اور کمیشن کے سامنے رکھا جائے گا جن کا اس پر فیصلہ حتمی ہو گا۔

(۲) اگر ایک ہذا کی تصریحات پر عملدرآمد میں کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے تو چانسلر بورڈ آف گورنرز کی آراء لینے کے بعد ایسا حکم جاری کر سکتا ہے جو کہ ایک ہذا کی تصریحات سے عدم مطابقت نہ رکھتا ہو جیسا کہ اس کے خیال میں مشکل کے ازالے کے لئے ضروری ہو۔

(۳) جہاں کہیں ایک ہذا کی کسی تصریح کے تحت کسی امر کو کرنے کی صراحت کی جاتی ہے لیکن اس کی صراحت یا کافی صراحت نہیں کی جاتی کہ کوئی اٹھارہ فیصد، کس وقت اور کس انداز میں کرے گی، تو یہ اس اٹھارہ فیصد کی جانب سے اس وقت اور اس انداز میں کیا جائے گا جیسا کہ چانسلر بورڈ آف گورنرز کی آراء لینے کے بعد ہدایت کرے۔

۳۶۔ اعلیٰ حکومت، انسٹیٹیوٹ، یا کسی اٹھارہ فیصد، حکومت یا انسٹیٹیوٹ کے افسر یا ملازم یا کسی دیگر شخص کے خلاف ایک ہذا کے تحت نیک نیتی سے کیے گئے کسی عمل کی بنیاد پر کوئی مقدمہ یا قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی۔

بیان اغراض ووجہ

اعلیٰ تعلیمی معیار: یہ ادارہ اعلیٰ معیار کی تعلیم فراہم کرے گا اور مختلف شعبوں میں تعلیمی معیار بلند کرے گا۔

جدت اور تحقیق: یہ ادارہ علم کو فروغ دے گا اور مختلف شعبوں میں جدت اور تحقیق کے فروغ کے لیے کردار ادا کرے گا۔

طلبہ کی کامیابی اور مشغولیت: ہم ایک ایسا ماحول بنانے کی کاوش کریں گے جو طلبہ کی قابلیت میں اضافے میں معاون ہو۔ یہ ادارہ تعلیم اور پیشہ ورانہ زندگی میں رہنمائی کی جامع خدمات، متحرک تعلیمی بزم کی ترویج اور ہم نصابی سرگرمیوں، انٹرن شپس اور قائدانہ صلاحیتوں میں اضافے کے مواقع پیدا کر کے طلبہ کو مصروف عمل کرنے پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔

تنوع اور اشتراک: یہ ایک متنوع اور شمولیتی تعلیمی بزم کی تخلیق کرے گا جو مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے افراد کو اہمیت دے کر ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کرے گا۔ ہم طلبہ اور اساتذہ کے درمیان تنوع میں اضافے مساوات اور رسائی بڑھانے اور تدریس کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں ان جس میں تمام فریق خود کو اہم اور قابل قدر محسوس کریں۔

عالمی اشتراکیت: باہمی طور پر مربوط دنیا کے تناظر میں ہم عالمی شراکت داری پر زور دیتے ہیں۔ اس کا مقصد بین الاقوامی تعاون کا فروغ، بیرون ملک تعلیمی پروگراموں کی پیشکش، بین الاقوامی اسکالروں اور طلبہ کی ترغیب، اور دوسری ثقافتوں کے بارے میں آگاہی اور فہم پیدا کر کے عالمی شہری بننے کے لیے طلبہ کو تیار کرنا ہے۔

آبادی کی رسائی اور اثرات: یہ ادارہ آبادی کی بہبود کے اقدامات، مقامی تنظیموں کے ساتھ اشتراک، اور جدت، تحقیق اور سماجی کاروبار کے ذریعے سماجی مشکلات کا ازالہ کرنے پر توجہ مرکوز کرے گا۔

استحکام اور ماحولیاتی نگرانی: اس ادارے کا مقصد ماحولیاتی استحکام کے لیے افراد میں ذمہ داری کا احساس اجاگر کرنا ہے تاکہ وہ ماحول پر مرتب ہونے والے مضر اثرات میں کمی، ادارے کی سرگرمیوں میں قابل عمل رجحانات متعارف کرانے، ماحول کو درپیش مسائل سے متعلق تحقیق کرنے اور طلبہ اور عملے میں آگاہی اور ماحولیاتی توازن سے متعلق تعلیم کو فروغ دینے کے لیے مصروف عمل ہو سکیں۔

دستخط۔

جناب ذوالفقار علی بھٹی

رکن قومی اسمبلی